

92 موضوعات پر مشتمل مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش کا تحریری مدنی نگہ دستہ



حصہ 1

ڈیجیٹل معلومات

(سوالاً جواباً)



حصہ 1

رچسپ معلومات (سوالا جوابا)

پیشکش

مجلس مدنی چینل

و

مجلس المدینة العلمیہ (دعوتِ اسلامی)

مکتبہ المدینہ باب المدینہ (کراچی)

ناشر

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰیكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

نام کتاب : دلچسپ معلومات (سوالا جوابا) حصہ 1
پہلی بار : ربیع الآخر ۱۴۳۸ھ، جنوری 2017ء
تعداد : 10000 (دس ہزار)
ناشر : مکتبۃ المدینہ فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران پرائی سبزی منڈی کراچی

تصدیق نامہ

تاریخ: ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ حوالہ نمبر: ۲۱۰

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

تصدیق کی جاتی ہے کہ کتاب

”دلچسپ معلومات (سوالا جوابا)“ حصہ 1

(مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) پر مجلس تفتیش کتب و رسائل کی جانب سے نظر ثانی کی
کوشش کی گئی ہے۔ مجلس نے اسے عقائد، کفریہ عبارات، اور فقہی مسائل وغیرہ کے حوالے
سے مقدمہ بھر ملاحظہ کر لیا ہے، البتہ کمپوزنگ یا کتابت کی غلطیوں کا ذمہ مجلس پر نہیں۔

مجلس تفتیش کتب و رسائل (دعوتِ اسلامی)

26 - 12 - 2016

www.dawateislami.net. E-mail : ilmia@dawateislami.net

مدنی التجا: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں

فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
69	تراویح		ایمان و عقائد
72	قضا نمازیں	9	اللہ تعالیٰ
75	سجدہ تلاوت	11	نبوت
77	مسافر کی نماز	14	فرشتے
80	جمعہ	16	جنات
83	عیدین	19	جنت
87	بیماری، عیادت اور موت	21	دوزخ
90	میت کا غسل اور کفن	24	عالم برزخ
93	نماز جنازہ	27	قیامت کی نشانیاں
95	قبر و دفن	30	قیامت
98	زکوٰۃ	32	ایمان و کفر
102	صدقہ	35	ولایت
105	روزہ		مسائل و احکام
108	حج اور عمرہ	38	طہارت
111	قربانی	41	وضو
114	نکاح	43	غسل
117	طلاق، عدت اور سوگ	46	تیمم
120	قسم	49	اذان و اقامت
122	لقطہ	53	نماز
125	وقف اور چندہ	56	نماز کی شرائط
128	مسجد	59	نماز کے فرائض
131	کسب اور تجارت	61	واجبات نماز اور سجدہ سہو
134	قرض اور سود	64	نماز و تر
	سننیں اور آداب	66	سننیں اور نوافل

212	بغض و کینہ	139	کھانا
215	حسد	141	دعوت اور مہمان نوازی
218	غصہ	144	لباس، انگوٹھی اور زیور
221	تکبر	147	زینت
224	ریاکاری	150	بیٹھے سونے اور چلنے کے آداب
	سیرت و حالات	153	سلام و مُصافحہ
227	سیرتِ سید الانبیاء صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم	156	چھینک اور جمہای
		159	قبروں کی زیارت
230	سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ		قرآن کریم
235	سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ	163	قرآن کریم (فضائل و معلومات)
238	سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ	165	آیات اور سورتوں کی معلومات
242	سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْہَهُ الْکَرِیْم	168	انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ
246	عَشْرَةُ مُبَشِّرَةٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ		اچھی خصلتیں
249	صحابہ کرام رَضَوْنَا اللهُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن	171	حسن اخلاق
254	اُتْمَهَاتُ الْمُؤْمِنِیْنَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ	174	خوفِ خدا
257	اہل بیت اطہار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ	177	صلہ رحمی
261	علماء و مجتہدین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ	180	صبر و شکر
263	اولیاء و صالحین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ	183	توبہ و استغفار
266	امامِ اہلسنت، اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْہِ	186	علم کے فضائل
		189	والدین اور ان کے حقوق
270	امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ الْغَالِبِیۃ	194	اولاد اور ان کے حقوق
	متفرقات		جبری خصلتیں
273	ذکر و اذکار	197	غیبت
276	درود پاک	200	بد شکونی
279	بیعت و طریقت	203	بدگمانی
282	مقدس مقامات	206	جزص
285	دعوتِ اسلامی	209	جھوٹ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

”ذہنی آزمائش“ کے 10 حروف کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی ”10 یتیتیں“

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: نِيَّةُ الْتَوَمِّنِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةٍ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
(معجم کبیر، ۱۸۵/۶، حدیث: ۵۹۴۲)

دو دینی پھول: بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

(1) ہر بار حمد و صلوة اور تَعُوذُ وَتَسْبِيحِہ سے آغاز کروں گا۔ (اسی صفحہ پر اوپر دی ہوئی دو عربی عبارات پڑھ لینے سے اس پر عمل ہو جائے گا) (2) رضائے الہی کے لئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مُطالَعَة کروں گا۔ (3) حَقِّ التَّوَسُّعِ اس کا باؤ ضو اور قبلہ رُو مُطالَعَة کروں گا۔ (4) قرآنی آیات اور احادیثِ مبارکہ کی زیارت کروں گا۔ (5) جہاں جہاں ”اللہ“ کا نام پاک آئے گا وہاں عَزَّ وَجَلَّ اور جہاں جہاں ”سرکار“ کا اسم مبارک آئے گا وہاں صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور جہاں جہاں کسی صحابی یا بزرگ کا نام آئے گا وہاں رَحِمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ پڑھوں گا۔ (6) رضائے الہی کے لئے علم حاصل کروں گا۔ (7) اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علماً سے پوچھ لوں گا۔ (8) (اپنے ذاتی نسخے کے) ”یادداشت“ والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا۔ (9) دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (10) کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مُطَّلَع کروں گا۔

(ناشرین وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا)



الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ

از: شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت، بانیِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری
رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَبْلِيغِ قُرْآنِ وَسُنَّتِ كِي
عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ نیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علمِ شریعت
کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزمِ مُصَبَّم رکھتی ہے، ان تمام اُمور کو بحسن خوبی سر انجام دینے
کے لئے مُتَعَدِّد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک ”الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ“
بھی ہے جو دعوتِ اسلامی کے علماء و مفتیانِ کرام كَثَرَهُمُ اللَّهُ السَّلَامَ پر مشتمل ہے، جس نے خالص
علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

- (۱) شعبہ کتبِ اعلیٰ حضرت (۲) شعبہ تراجمِ کتب (۳) شعبہ درسی کتب
(۴) شعبہ اصلاحی کتب (۵) شعبہ تفتیشِ کتب (۶) شعبہ تخریج^(۱)

”الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ“ کی اولین ترجیح سرکارِ اعلیٰ حضرت، امامِ اہلسنت، عظیم البرکت،
عظیم المرتبت، پر وائے شمع رسالت، مُجَدِّدِ دین و ملت، حامیِ سنت، حامیِ بدعت، عالمِ شریعت،
پیرِ طریقت، باعِثِ خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا
خان عَلِيَه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کی گراں مایہ تصانیف کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق حَتَّى الْوُسْعِ
سہلِ اسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی اور اشاعتی

①... تادمِ تحریر (ریج الاخر ۱۳۳۷ھ) 10 شعبے مزید قائم ہو چکے ہیں: (۷) فیضانِ قرآن (۸) فیضانِ حدیث
(۹) فیضانِ صحابہ و اہل بیت (۱۰) فیضانِ صحابیات و صالحات (۱۱) شعبہ امیرِ اہلسنت مدظلہ (۱۲) فیضانِ مدنی
مذکرہ (۱۳) فیضانِ اولیا و علماء (۱۴) بیاناتِ دعوتِ اسلامی (۱۵) رسائلِ دعوتِ اسلامی (۱۶) عربی تراجم۔

مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ”دعوتِ اسلامی“ کی تمام مجالس بشمول ”الْمَدِينَةُ الْعَلِيَّة“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ اِخْلَاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضرِ شہادت، جَنَّتِ الْبَقِيعِ میں مدفن اور جَنَّتِ الْفَرْدُوسِ میں جگہ نصیب فرمائے۔

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

کون کب اور کہاں مرے گا؟

♦... جنگ بدر کے موقع پر حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ نے چند جاں نثاروں کے ساتھ رات میں میدانِ جنگ کا معائنہ فرمایا، اس وقت دُشْتِ انور میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اُس چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے ہوئے فرما رہے تھے کہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ (مسلم، کتاب الجهاد السیر، باب غزوة بدر، ص ۹۸۱،

حدیث: ۱۷۷۸۔ شرح الزرقانی علی المواہب، باب غزوة بدر، الکبریٰ، ۲/ ۲۶۹)



پیش لفظ

علمِ دین کے دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد ہیں۔ علم کی تلاش عبادت..... اس کی جستجو جہاد..... بے علم کو سکھانا صدقہ..... اور اہل کو پڑھانا نیکی ہے..... یہ حلال و حرام کی پہچان..... جنتیوں کے راستے کا نشان ہے..... فرشتے علم والوں کی دوستی میں رغبت کرتے اور انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں..... ان کے لیے ہر خشک و ترشے، سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے درندے و چوپائے استغفار کرتے ہیں..... بندہ علم کے سبب اولیا کی منزلیں پالیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے۔

علم و وحشت میں تسکین..... سفر میں ہم نشین..... تہائی کا ساتھی..... تنگی و خوشحالی میں راہنما..... دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں کے حق میں زینت ہے..... اس کے ذریعے قوموں کو بلندی و برتری دے کر پیشوا بنا دیا جاتا ہے..... علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی اور تاریکیوں کے مقابلہ میں آنکھوں کا نور ہے..... علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے..... خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے جبکہ بد بختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

”دعوتِ اسلامی“ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد علمِ دین کی روشنی پھیلانا اور دنیا بھر کے لوگوں کو نورِ علم سے منور کرنا ہے اور اس اہم کام کے لیے تحریری، تقریری اور عملی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ دارالافتاء اہلسنت ہو یا جامعۃ المدینہ، المدینۃ العلمیہ ہو یا مکتبۃ المدینہ، دارالمدینہ ہو یا مختلف تربیتی کورسز سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ”پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو زیورِ علم سے آراستہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے۔“

”مدنی چینل“ کے مختلف سلسلے (پروگرامز) بھی اسی مقصد کی مختلف کڑیاں ہیں، ہر سلسلہ اپنی جگہ اہم مگر بعض سلسلے عوام و خواص میں بے حد مقبول ہیں جن میں ”مدنی مذاکرہ“ سر فہرست ہے جس میں قبلہ شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہُ شرعی، روحانی، طبی اور سماجی سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ یوں ہی حکمت بھرے انداز میں مسلمانوں کو علم دین سکھانے کے لیے مدنی چینل کا سلسلہ ”ذہنی آزمائش“ بھی مقبول ترین سلسلوں میں سے ایک ہے، اس مقبول عام سلسلے میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث اور مُسْتَمَدِّ دینی کُتُب سے آخذ شدہ معلومات اور مدنی پھولوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔

دعوت اسلامی کی ”مجلس الْبَدِیَّةُ الْعَلِیَّہُ“ نے ان سوالات و جوابات کو کانٹ چھانٹ، تنقیح و تحقیق، تقدیم و تاخیر اور توضیح و تخریج کے مراحل سے گزار کر تحریری شکل میں بنام ”دلچسپ معلومات“ پیش کر دیا ہے تاکہ معلومات کا یہ خزانہ کتابی شکل میں محفوظ ہو جائے۔ فی الحال حضور تاجدار انبیاء وَاٰخِآئِمُ الرُّسُلِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ کے مُقَدَّس نام ”محمد“ کے عدد 92 کی نسبت سے 92 موضوعات رکھے گئے ہیں، ہر موضوع کے تحت بارہویں شریف کی نسبت سے 12 سوالات رکھے گئے ہیں اور ان کو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے ان 8 عنوانات کے تحت لایا گیا ہے: (1) ایمان و عقائد (2) مسائل و احکام (3) سننیں اور آداب (4) قرآن کریم (5) اچھی خصلتیں (6) بری خصلتیں (7) سیرت و حالات (8) متفرقات۔

پیش نظر کتاب میں علم دین کا بہت بڑا خزانہ دلچسپ سوالات و جوابات کی شکل میں

موجود ہے، کتاب مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے یکساں مفید ہے، سوالات کا انداز آسان ہونے کی وجہ سے بچے بھی انتہائی ذوق کے ساتھ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فرض علوم کے موضوعات بھی شامل ہیں جو ہر مسلمان کے لئے نہایت اہم ہیں، ساتھ ہی ساتھ کثیر سنٹیں، آداب اور سیرت کے خوبصورت پہلو بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو اس کے مطالعہ کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔

اَمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

مجلس المدینة العلمیہ (دعوتِ اسلامی)

تفسیر کی اہمیت

حضرت ایاس بن معاویہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ اس کی تفسیر نہیں جانتے ان کی مثال اُن لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا اور ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکیں تو ان کے دل ڈر گئے اور انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر جانتا ہے اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد چراغ لے کر آیا تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔

(تفسیر قرطبی، باب ماجاء فی فضل تفسیر القرآن واهله، ۱/۴، الجزء الاول ملخصاً)

اللہ تعالیٰ

واجب الوجود کس کو کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ذاتِ باری تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں اور اس سے مراد وہ ذات ہے جس کا وجود ضروری ہو۔ (1)

اللہ تعالیٰ کے قدیم اور آزلی ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے قدیم اور آزلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ (2)

اللہ تعالیٰ کے ابدی ہونے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے ابدی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ (3)

علمِ ذاتی کا کیا معنی ہے؟

جواب: علمِ ذاتی کا یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیئے خود حاصل ہو۔ (4)

علمِ ذاتی کس کا خاصہ ہے؟

جواب: علمِ ذاتی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ (5)

اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کون کون سی ہیں؟

جواب: (1) حیات (2) قُدْرَت (3) سننا (4) دیکھنا (5) کلام (6) علم اور (7) ارادہ۔ یہ

1... بہار شریعت، حصہ ۱، ۲۔

2... بہار شریعت، حصہ ۱، ۳-۲۔

3... بہار شریعت، حصہ ۱، ۳۔

4... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۱۔

5... الدولة المکیة بالمادة الغیبیة، ص ۳۹۔

اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ (1)

اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے سے کیا مراد ہے؟

جواب: مراد یہ ہے کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ (2)

دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کس کے لئے خاص ہے؟

جواب: دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار امام الانبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ وسلم کے لئے خاص ہے۔ (3)

آخرت میں کسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟

جواب: آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ (4)

کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم ہے؟

جواب: جی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں یعنی

پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ (5)

تقدیر کا مطلب کیا ہے؟

جواب: ہر بھلائی، بُرائی اُس نے اپنے علمِ اَزلی کے موافق مقدر فرمادی ہے جیسا ہونے والا

تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا

1... مسامرة شرح مسامرة، ص ۳۹۱۔ حدیقة ندیة، ۱/۲۵۳۔

2... تفسیر کبیر، پ ۱۵، الکھف، تحت الآیة: ۲۵، ۴۵۴/۷۔ بہار شریعت، حصہ ۱، ۶/۱۔

3... فتاویٰ حدیثیہ، ص ۲۰۰۔ المعتمد المتقن، ص ۵۶۔

4... بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: وجوه یومئذ ناضرة، ۵۵۱/۴، حدیث: ۷۲۳۷۔ الفقه الاکبر، ص ۸۳۔

بہار شریعت، حصہ ۱، ۲۱/۱، ملقطاً۔

5... شرح عقائد نسفیة، ص ۹۸۔

اُس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اُس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ بُرائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اُس کے لیے بھلائی لکھتا تو اُس کے علم یا اُس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔^(۱)

کوئی بُرائی سرزد ہو جانے پر اسے تقدیر کی طرف منسوب کرنا کیسا ہے؟

جواب: بُرا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مَشِيَّتِ اللہ کے حوالہ کرنا بہت بُری بات ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے مُنْجِزِبِ اللہ کہے اور جو برائی سرزد ہو اُس کو شامتِ نفس تصور کرے۔^(۲)

نبوت و رسالت

نبی کسے کہتے ہیں؟

جواب: جس انسان کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔^(۳)

رسول کسے کہتے ہیں؟

جواب: انبیائے کرام میں سے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں وہ رسول کہلاتے ہیں۔^(۴)

وحی کسے کہتے ہیں؟

۱... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۱/۱-۱۲۔

۲... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۹۔

۳... بہار شریعت، حصہ ۱، ۲۸، مِلّصَلّٰ

۴... شرح عقائد نسفیة، النوع الثانی خبر الرسول... الخ، ص ۸۲-۸۳۔

جواب ﴿﴾ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔^(۱)

﴿﴾ وحی کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب ﴿﴾ انبیاء کے حق میں وحی تین قسم پر ہے:

(۱) بِالْوَسْطَةِ: فرشتے کی وساطت سے کلامِ ربّانی نبی کے پاس آئے جیسے جبرائیل

عَلَيْهِ السَّلَام کا وحی لانا۔

(۲) بِالْاَوَسْطَةِ: فرشتے کی وساطت کے بغیر بِنَفْسِ نَفْسِ کلامِ ربّانی کو سنا جیسے

معراج کی رات حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے سنا اور کوہِ طور پر حضرت موسیٰ

عَلَيْهِ السَّلَام نے سنا۔

(۳) اَنْبِيَاءِ كِرَامِ كے قلوب میں معانی کا اِلْتِقَا کیا جائے (دلوں میں بات ڈال دی

جائے)۔^(۲)

﴿﴾ کیا غیر نبی کے پاس وحی آسکتی ہے؟

جواب ﴿﴾ وحی نُبُوَّتِ غیر نبی کے پاس نہیں آتی، جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے۔^(۳)

﴿﴾ کیا انبیاء کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام سے گناہ ممکن ہیں؟

جواب ﴿﴾ جی نہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں ان سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ ممکن نہیں۔^(۴)

﴿﴾ کیا سب انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے یا کسی ایک پر ایمان لانا کافی ہے؟

① ... نزہۃ القاری، ۱/۲۳۴۔

② ... نزہۃ القاری، ۱/۲۳۴، خلاصاً۔

③ ... المعتقد المنتقد، ص ۱۰۵۔ شفاء، فصل فی بیان ماہوس المقالات کفر، جزء ۲، ص ۲۸۵۔

④ ... حدیث نذیہ، ۱/۲۸۸۔

جواب ﴿﴾ جی ہاں تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے۔ (۱)

جواب ﴿﴾ سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتائیں؟

جواب ﴿﴾ سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم عَلَیْهِ السَّلَام ہیں اور سب سے آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہیں۔ (۲)

جواب ﴿﴾ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کو غیب کا علم ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟

جواب ﴿﴾ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نے انبیاء عَلَیْهِمُ السَّلَام کو غیب عطا فرمایا، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے مگر ان کو یہ علم غیب اللهُ عَزَّ وَجَلَّ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہو اور اللهُ عَزَّ وَجَلَّ کا علم ذاتی۔ (۳)

جواب ﴿﴾ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟

جواب ﴿﴾ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا ہے کہ ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرمادیا۔ حضور کے زمانہ میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ (۴)

جواب ﴿﴾ جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے اس کے متعلق حکم کیا ہے؟

① ... تفسیر مدارک، پ ۱۹، الشعراء، تحت الآية: ۱۰۵، ص ۸۲۵۔

② ... شرح عقائد نسفیہ، اول الانبیاء آدم... الخ، ص ۳۰۰۔

③ ... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۲۱-۲۵، ملخصاً۔

④ ... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۶۳۔

جواب جو شخص سرورِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے زمانہ میں یا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا عقیدہ رکھے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے وہ کافر ہے۔^(۱)

انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ کی حیاتِ طیبہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟

جواب انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ کی حیاتِ طیبہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیاتِ حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں اور جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔^(۲)

فرشتے

فرشتے کونسی مخلوق ہیں؟

جواب فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، وہ مرد ہیں نہ عورت، البتہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔^(۳)

فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا انہیں نیکی کی قوت کہنا کیسا؟

جواب فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، اسکے سوا کچھ نہیں۔ یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔^(۴)

ابلیس ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے کس مقام پر فائز تھا؟

①... المعتمد المتقدم ص ۱۲۰۔

②... بہار شریعت، حصہ ۱، ۵۸۔

③... منح الروض الاضہر ص ۱۲۔ مسلم، کتاب الزہد، باب فی احادیث متفرقة، ص ۱۵۹، حدیث: ۲۹۹۶۔

④... بہار شریعت، حصہ ۱، ۹۵۔

جواب ﴿﴾ ابلیس جنات میں سے تھا مگر بہت بڑا عابد و زاہد تھا یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اُس کا شمار تھا۔ (1)

﴿﴾ اُن فرشتوں کے نام بتائیں جو تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں؟

جواب ﴿﴾ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل عَلَيْهِمُ السَّلَام۔ (2)

﴿﴾ انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے والے دو فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟

جواب ﴿﴾ کراما کاتبین (یعنی اعمال لکھنے والے معزز فرشتے)۔ (3)

﴿﴾ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟

جواب ﴿﴾ ان فرشتوں کو ”مُنْكَرٌ نَّكِرٌ“ کہتے ہیں۔ (4)

﴿﴾ سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟

جواب ﴿﴾ سب سے آخر میں حضرت ملکُ المَوتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو موت آئے گی۔ (5)

﴿﴾ حضرت اسرافیل عَلَيْهِ السَّلَامُ کے ذمے کیا کام ہے؟

جواب ﴿﴾ حضرت اسرافیل عَلَيْهِ السَّلَامُ کے ذمے قیامت کے دن صُور پھونکنا ہے۔ (6)

﴿﴾ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟

1... پ ۲۹، المندو: ۳۱۔ بہار شریعت، حصہ ۱، ۵۰/۱۔

2... تفسیر کبیر، البقرة: تحت الآية: ۳۰، ۳۸۶/۱، ملقطاً۔

3... پ ۳۰، الانفطار: ۱۱۔

4... ترمذی، کتاب الجنان باب ما جاء في عذاب القبر، ۳۳۷/۲، حدیث: ۱۰۷۳۔

5... شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة، ماوردی کتاب اللہ... الخ، ۲۰۲/۱۔ الجنانک فی اخبار الملائک، ص ۲۷۲-۲۷۳۔

6... الجنانک فی اخبار الملائک، ص ۳۱۔

جواب: ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اُسکے بتائے سے اُس کا رسول۔ (1)

وہ کون سا فرشتہ ہے جسے پانی برسانا اور رزق دینا وغیرہ ذمہ داریاں سپرد ہیں؟

جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ (2)

تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟

جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ (3)

عَرَش کا طواف کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟

جواب: جو ملائکہ عَرَش کا طواف کرنے والے ہیں انہیں ”کَرُوْبِي“ (کَر۔ رُو۔ بِي) کہتے

ہیں اور یہ ملائکہ میں صاحب سیادت ہیں۔ (4)

جَنّات

جَنّات کون ہیں؟

جواب: جَنّات ایک مخلوق ہے، اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے انہیں آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا

ہے، ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی، یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل کام

کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ (5)

جَنّ کو جَنّ کیوں کہتے ہیں؟

1... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۹۳۔

2... تفسیر بغوی، المناجات، تحت الآیة: ۵: ۲/۴۱۱۔

3... الجناتک فی اخبار الملائک، ص ۱۹۔

4... خزائن العرفان، پ ۲۲، المؤمن، تحت الآیة: ۷، ص ۸۶۴۔

5... ۲/۱۵، تفسیر قرطبی، پ ۲۹، الجن، تحت الآیة: ۱۱، ۱۰/۱۲۱۔ حدیقة ندیة، ۱/۲۲۔

جواب: ﴿﴾ لغت میں جن کا معنی ہے ”ستر اور خفا“ اور جن کو اسی لئے جن کہتے ہیں کہ وہ

عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔^(۱)

﴿﴾ جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا؟

جواب: ﴿﴾ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔^(۲)

﴿﴾ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات میں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟

جواب: ﴿﴾ جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے

دو ہزار سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔^(۳)

﴿﴾ جنات کتنی تعداد میں ہیں؟

جواب: ﴿﴾ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔^(۴)

﴿﴾ بُرے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟

جواب: ﴿﴾ بُرے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔^(۵)

﴿﴾ جنات سے حفاظت کیلئے قرآن پاک کی کن سورتوں اور آیات کی تلاوت کی جائے؟

جواب: ﴿﴾ (1) آیۃ الکرسی (2) لیس شریف (3) سورۃ مومنوں کی آخری آیات (4) سورۃ

مؤمن کی ابتدائی آیت (5) سورۃ البقرہ (6) سورۃ ال عمران (7) سورۃ الأعراف

①... عمدۃ القاری، کتاب بیدۃ الخلق، باب ذکر الجن و توایہم و عقابہم، ۱۰/۲۳۔

②... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۹۷۔

③... درمنثور، ۱، البقرہ، تحت الآیۃ: ۳۰، ۱/۱۱۱۔ کتاب العظمت، صفۃ ابتداء الخلق، ص ۲۹۹، حدیث: ۸۹۱۔

④... تفسیر طبری، ۱، الانبیاء، تحت الآیۃ: ۹۶، ۸۵/۹، ماخوذاً۔

⑤... تفسیر کبیر، الكتاب الاول فی العلوم المستنبطۃ من قوله: اعوذ باللہ... الخ، الباب الثانی... الخ، ۱/۸۵۔

(8) سورہ حشر کی آخری آیات (9) سورہ اخلاص (10) سورہ الفلق اور سورہ الناس۔⁽¹⁾

کیا انسانوں کی طرح جنات پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟

جواب: جی ہاں! جنات بھی شریعتِ مطہرہ کے پابند ہیں۔ مسلمان جنات نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، تلاوتِ قرآن کرتے اور انسانوں سے دینی علوم اور روایتِ حدیث حاصل کرتے ہیں اگرچہ انسانوں کو پتہ نہ چلے۔⁽²⁾

امامُ الأئمہ، امامِ اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كے وصال پر جنات کیا کہہ رہے تھے؟

جواب: جنات ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے: فقیہ (قرآن و سنت سے احکام نکالنے اور انہیں واضح کرنے والا عالم) چلا گیا تو اب تمہارے لئے کوئی فقیہ نہ رہا لہذا اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے ڈرو اور ان کے پیروکار اور جانشین بنو۔⁽³⁾

کیا جنات نے بھی سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ولادت کی خوشی منائی تھی؟

جواب: جی ہاں! جب حضورِ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ولادتِ باسعادت ہوئی تو جبیل ابی قتیس اور جحون کے پہاڑ پر جن نے قسم کھا کر یہ ندا کی: ”انسانوں میں سے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمنہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے“

1... قوم جنات اور امیرِ اہلسنت، ص ۱۵۹۔

2... فتاویٰ حدیثیہ، مطلب الاصح ان الجن لیس فیہم نبی ولا رسول، ص ۹۹، ملقطاً۔

3... لفظ المرجان فی احکام الجنان، فی بکاء الجن، ص ۲۰۰۔

اللہ تعالیٰ عنہا نے جنما ہے۔ (1)

مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟

جواب: یہ خبر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی۔ (2)

وہ کونسی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟

جواب: بیت المقدس۔ (3)

جنت

جنت کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟

جواب: جنت ایک مکان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کیلئے بنایا ہے، اس میں وہ

نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے

دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ (4)

جنت کتنی وسیع ہے؟

جواب: جنت کی وسعت کو اللہ عزوجل اور اُس کے بتائے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ و آلہ و سلم جانیں، مختصر یہ کہ اس میں سو (100) درجے ہیں۔ (5)

1... لفظ المرجان فی احکام الجن، نداء الجن... الخ، ص ۱۷۶۔

2... معجم اوسط، من اسمہ احمد، ۱/۲۲۲، حدیث: ۷۶۵۔

3... تفسیر بغوی، پ ۲۲، سبأ، تحت الآیة: ۳/۱۳، ۷۶۷۔

4... مسلم، کتاب الجنۃ وصفۃ تعیمہا و اهلہا، ص ۱۵۱۶، حدیث: ۲۸۲۲۔ بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۵۲/۱۔

5... ترمذی، کتاب صفۃ الجنۃ، باب ما جاء فی صفۃ درجات الجنۃ، ۲۳۸/۲، حدیث: ۲۵۳۹۔

جنت کے دو درجوں کے درمیان کتنی مسافت ہے؟

جواب: جنت کے ہر دو درجوں کے درمیان کی مسافت زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے۔^(۱)

جنت کا ایک درجہ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے؟

جواب: حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو وہ سب کے لئے وسیع ہے۔^(۲)

جنتوں کی تعداد اور نام بتائیں؟

جواب: جنتیں آٹھ (۸) ہیں: (۱) دَارُ الْجَلَال (۲) دَارُ الْقَرَار (۳) دَارُ السَّلَام (۴) جنتِ عَدْن (۵) جنتِ الْمَأْوٰی (۶) جنتِ الْخُلْد (۷) جنتِ الْفِرْدَوْس (۸) جنتِ النَّعِيم۔^(۳)

جنت کے کتنے دروازے ہیں؟

جواب: جنت کے طبقے بہت ہیں ہر طبقہ کا علیحدہ دروازہ ہے، خود جنت ہی کے بہت دروازے ہیں۔^(۴)

داروغہ جنت کا نام بتائیں؟

جواب: حضرت رضوان عَلَیْہِ السَّلَام۔^(۵)

① ... ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة، ۲/۲۳۸، حدیث: ۲۵۳۹۔

② ... ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة، ۲/۲۳۹، حدیث: ۲۵۴۰۔

③ ... روح البیان، پ ۱، البقرة، تحت الآية: ۲۵، ۱/۸۲۔

④ ... مرآة المناجیح، ۶/۶۰۸۔

⑤ ... مسند شہاب، باب ان لكل شیء قلبا... الخ، ۲/۱۳۰، حدیث: ۱۰۳۶۔

سوال: اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے اعلیٰ انعام کیا ہوگا؟

جواب: جنتیوں کیلئے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انہیں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ (1)

سوال: جنت میں کس کس قسم کی نہریں بہتی ہیں؟

جواب: پانی، شہد، دودھ اور شرابِ ظہور کی۔ (2)

سوال: جنت کے دروازے کتنے وسیع ہوں گے؟

جواب: جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز

گھوڑے کی ستر برس کی راہ ہوگی۔ (3)

سوال: حوض کوثر کیا ہے؟

جواب: یہ حضور ساقی کوثر صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا وہ حوض ہے جس سے آپ صَلَّی اللہُ

تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میدانِ محشر میں اپنی اُمت کو سیراب فرمائیں گے۔ (4)

سوال: جنتی جنت میں کتنی عمر کے دکھائی دیں گے؟

جواب: تیس (30) یا تینتیس (33) سال کے۔ (5)

دوزخ

سوال: دوزخ کیا ہے؟

1... مسلم، کتاب الایمان، باب اثبات رؤیة المؤمنین فی الآخرة... الخ، ص ۱۱۰، حدیث: ۱۸۱۔

2... ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء فی صفة انهار الجنة، ۳/۲۵۷، حدیث: ۲۵۸۰۔

3... مسند احمد، حدیث ابی رزین العقبلی، ۵/۳۷۵، حدیث: ۱۶۲۰۶۔

4... روح البیان، البقرة، تحت الآیة: ۲۵، ۸۳/۱۔

5... ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء فی سن اهل الجنة، ۳/۲۴۲، حدیث: ۲۵۵۴۔

جواب: دوزخ ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔

دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟

جواب: دوزخ حق ہے (1) اس کا انکار کرنے والا کافر ہے (2) اور یہ پیدا ہو چکی ہے۔ (3)

دوزخ کی گہرائی کتنی ہے؟

جواب: دوزخ کی گہرائی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی جانتا ہے، حدیث شریف میں ہے: اگر ایک

بہت بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے اور وہ اس میں 70 سال تک

گرتا رہے تب بھی اس کی تہ تک نہ پہنچے گا۔ (4)

دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بتائیں؟

جواب: ان کی تعداد اُنیس (19) ہے، ایک حضرت مالک عَلَیْہِ السَّلَام اور اٹھارہ (18) اُن

کے ساتھی۔ (5)

قیامت کے روز جہنم کو کس حال میں لایا جائے گا؟

جواب: قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر (70) لگا میں

ہوں گی اور ہر لگام کو 70 ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ (6)

جہنم کی سختیاں کیسی ہیں؟

1... شرح عقائد نسفیة، ص ۲۴۹۔

2... شفاء القسوم الرابع، الباب الاول، فصل فی بیان ماہوین المقالات... الخ، الجزء الثانی، ص ۲۹۰۔

3... تفسیر خازن، ال عمران، تحت الآیة: ۱۳۳، ۱/۳۰۱۔

4... ترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء فی صفة قعر جہنم، ۲/۲۶۰، حدیث: ۲۵۸۲۔

5... تفسیر خازن، ب، ۳۰، المدثر، تحت الآیة: ۳۰، ۳/۳۲۹۔

6... ترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء فی صفة النار، ۲/۲۵۹، حدیث: ۲۵۸۲۔

جواب: حدیث پاک میں ہے: اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں، یہ دنیا کی آگ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دُعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔^(۱)

جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب کیا ہوگا؟

جواب: جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اُس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ یہ سب سے ہلکا ہوگا۔^(۲)

جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟

جواب: اس وادی کا نام ”وِیل“ ہے اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اُس کے مُسْتَحَقِّ ہیں۔^(۳)

دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں؟

جواب: حدیث شریف میں ہے: دوزخ میں 70 ہزار وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70 ہزار گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70 ہزار بیل ہیں اور ہر بیل میں سانپ ہے جو جہنمیوں کے چہروں کو کھاتا ہے۔^(۴)

دوزخ کی آگ کس رنگ کی ہے؟

①... معجم اوسط، ۷۸/۲، حدیث: ۲۵۸۳۔

②... مسلم، کتاب الایمان، باب اھون اھل النار عذاباً، ص ۱۳۴، حدیث: ۲۱۲۔

③... بہار شریعت، حصہ ۳، ۱/۳، ۲۳۴۔

④... الترغیب والترہیب، کتاب صفة العنفة والنار، التریب من النار، فصل فی اودیتھا و جالھا، ۲/۵۴، حدیث: ۴۰۔

جواب: حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: دوزخ کی آگ کو ہزار سال جلایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر ہزار سال جلایا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر ہزار سال جلایا گیا حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی، اب یہ تاریک رات کی طرح سیاہ (کالی) ہے۔^(۱)

کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو دوزخ میں داخل کرے گی؟

جواب: (۱) منہ اور (۲) شرم گاہ۔^(۲)

جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ شدید ہے؟

جواب: دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے ستر جزوں میں سے ایک ہے۔^(۳)

عالمِ بَرُزْخ

بَرُزْخ کسے کہتے ہیں؟

جواب: دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالمِ بَرُزْخ کہتے ہیں۔^(۴)

عالمِ بَرُزْخ میں کب تک رہنا ہوگا؟

جواب: مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسبِ مراتب اُس میں رہنا ہوتا ہے۔^(۵)

کیا روح و جسم دونوں مر جاتے ہیں؟

①... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب صفة النار، ۵۲۹/۴، الحدیث: ۴۳۲۰۔

②... ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی حسن الخلق، ۳/۲۰۴، حدیث: ۲۰۱۱۔

③... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب صفة النار، ۵۲۸/۴، حدیث: ۴۳۱۸۔

④... تفسیر طبری، پ ۱۸، المؤمنون، تحت الآیة: ۱۰۰، ۹/۲۴۲۔

⑤... بہار شریعت، حصہ ۱، ۹۸۔

جواب موت کے معنی صرف روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہیں، یہ مراد نہیں کہ روح

مر جاتی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔^(۱)

سوال بزخنی زندگی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟

جواب بزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ راحت و لذت، کُلْفَت و اذیت

(ذُکھ و مصیبت)، سُرو و غم سب حالتیں بزخ میں ہیں۔^(۲)

سوال قبر کے عذاب و انعام کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟

جواب ایسا شخص گمراہ ہے۔^(۳)

سوال کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے؟

جواب جی ہاں! اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور

اُس سے آگاہ ہوگی۔^(۴)

سوال بزخ میں مسلمان کی روح کہاں رہتی ہے؟

جواب مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔^(۵)

سوال بزخ میں کافر کی روح کہاں رہتی ہے؟

جواب کافروں کی خبیث رو حیں بعض کی اُن کے مزگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی

چاہ بَر ہوت میں کہ یخن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی، دوسری، ساتویں

①... شرح الصدور، باب فضل الموت، ص ۱۲، باب مقر الارواح، ص ۳۲۲۔ فتاویٰ رضویہ، ۹/ ۲۵۷۔

②... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۰۰/۱، ملخصاً۔

③... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۱۳۔

④... منہج الروض الازھر، ص ۱۰۰۔ شرح عقائد نسفیة، ص ۲۲۱۔

⑤... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۰۱۔

زمین تک، بعض کی اُس کے بھی نیچے سَجِّین میں، اور وہ کہیں بھی ہو، جو اُس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اُسے دیکھتے، پہچانتے، بات سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔^(۱)

کیا مرنے کے بعد روح کسی اور بدن میں منتقل ہو سکتی ہے؟

یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا جس کو تَنَاحُ اور آواگون کہتے ہیں محض باطل اور اس کا ماننا کُفر ہے۔^(۲)

”عَجْبُ الدُّنْب“ کسے کہتے ہیں؟

ریڑھ کی ہڈی کے وہ باریک اجزا جن کو نہ کسی خوردبین سے دیکھا جاسکتا ہے، نہ آگ انہیں جلا سکتی، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، یہی تخمِ جسم ہیں، لہذا روزِ قیامت روحوں کا اعادہ (یعنی لوٹانا) اسی جسم میں ہوگا۔^(۳)

وہ کون ہیں جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی؟

انبیاء علیہم السلام، اولیائے کرام، علمائے دین، شہداء، قرآن مجید پر عمل کرنے والے حفاظ، کبھی بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ کرنے والوں اور اپنے اوقات کو دُرد شریف میں مُستغرق رکھنے والوں کے اجسام کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔^(۴)

کیا قبر ہر مُردے کو دباتی ہے؟

①... بہارِ شریعت، حصہ ۱، ۱۰۳-۱۔

②... نبراس، والبعث حق، ص ۲۱۳۔

③... بہارِ شریعت، حصہ ۱، ۱۱۲-۱۔

④... روح البیان، پ ۱۰، التوبة، تحت الآية: ۴۱، ۳/۳۹-۳۹۔

شرح الصدور، باب تن المیت۔ الخ، ص ۳۱۷-۳۱۸۔ جامع کرامات الاولیاء، ۱/۲۷۶-۲۔

جواب ﴿ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے علاوہ ہر ایک کو قَبْرِ دَبَاتی ہے مگر مسلمان کو دانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چٹائے اور کافر کو سختی سے حتیٰ کہ اُس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔^(۱)

قیامت کی نشانیاں

جواب ﴿ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟

جواب ﴿ اس سے مراد دنیا کے فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں جن میں سے بعض واقع ہو چکیں اور کچھ باقی ہیں۔^(۲)

جواب ﴿ قیامت کی بعض چھوٹی بڑی نشانیاں بیان کیجئے؟

جواب ﴿ علما کو اٹھا کر علم اٹھالیا جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا، گانے باجے، شراب خوری اور مال کی کثرت ہوگی، مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی، وقت میں برکت نہ ہوگی، بڑے دجال کے علاوہ نبوت کے جھوٹے دعویدار 30 دجال اور ہوں گے، زکوٰۃ دینا بھاری ہوگا، مرد بیوی کی پیروی کرے گا اور ماں باپ کی نافرمانی، لوگ اگلوں پر لعنت کریں گے، درندے اور جانور آدمی سے بات کریں گے، لباس و جو توں سے محروم ذلیل لوگ محلات میں فخر کریں گے، لوگ مسجد میں چلائیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام

1... فیض القدیر، ۴۲۴/۵، تحت الحدیث: ۷۹۳ - منح الروض الازہر، ص ۱۰۱۔

ترمذی، کتاب صفة القيامة، ۲۰۸/۴، حدیث: ۲۴۶۸، منقطعاً۔

2... بہار شریعت، حصہ ۱۱۶/۱، مختصاً۔

آسمان سے اتریں گے، حضرت امام مہدی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ظَاهِر ہوں گے،
یا جوج ماجوج نکلیں گے، ایک جانور دَابَّةُ الْأَرْضِ ظاہر گا اور سورج مغرب سے
نکلے گا۔ (1)

تمام دنیا میں فقط ایک ہی دین، دینِ اسلام کب ہوگا؟

جواب جب حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام نَزُول فرمائیں گے۔ (2)

حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کس وقت اور کہاں نَزُول فرمائیں گے؟

جواب حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر صبح
کے وقت نَزُول فرمائیں گے جبکہ نمازِ فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ (3)

حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کتنے سال دنیا میں قیام فرمائیں گے؟

جواب آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے زمین پر قیام کا مجموعی عرصہ 40 سال ہے، آسمان پر
تشریف لے جاتے وقت آپ عَلَيْهِ السَّلَام کی عمر مبارک 33 سال تھی، اب
جو قربِ قیامت میں تشریف لائیں گے تو 7 برس قیام فرمائیں گے۔ (4)

دجال کی خاص نشانیاں بتائیں؟

جواب دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر ”کافر“ لکھا ہوگا۔ (5)

1... بہارِ شریعت، حصہ 1، 1/116-127، ملخصاً۔

2... بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسیٰ۔ الخ، 2/59، حدیث: 3228۔

تفسیر طبری، 1، النساء، تحت الآیة: 159، 2/356۔

3... بہارِ شریعت، حصہ 1، 1/122، ملخصاً۔

4... فتاویٰ حدیثیہ، مطلب فی کم یقیم عیسیٰ علیہ السلام بعد نزولہ؟، ص 251، ملخصاً۔

5... بخاری، کتاب الفتن، باب ذکر الدجال، 2/51، حدیث: 131۔

دجال کے ساتھ کس کی فوجیں ہوں گی؟

جواب: دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی۔^(۱)

دجال کتنے دن میں تمام روئے زمین کا گشت کرے گا؟

جواب: دجال حرَمینِ طَبِئِین کے سوا تمام روئے زمین کا چالیس (40) دن میں گشت کرے گا۔^(۲)

اتنے کم دنوں میں ساری زمین کا گشت کیسے ہو گا؟

جواب: کیونکہ چالیس دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہو گا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر اور باقی دن چوبیس گھنٹے کے ہوں گے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرے گا، جیسے بادل کہ جس کو ہوا اڑاتی ہے۔^(۳)

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا دجال پر کیا اثر ہو گا؟

جواب: لعین دجال جب حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو دیکھے گا تو ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور وہ آپ سے بھاگے گا۔^(۴)

دجال کس کے ہاتھوں قتل ہو گا؟

جواب: حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے جہنم واصل کریں گے۔^(۵)

① ... ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب فتنۃ الدجال، ۴/۲۰۶، حدیث: ۴۰۷۷۔

② ... مسلم، کتاب الفتن، باب قصۃ الجساسۃ، ص ۱۵۷، حدیث: ۲۹۴۳۔

③ ... مسلم، کتاب الفتن، باب فی ذکر الدجال۔۔۔ الخ، ص ۱۵۶، حدیث: ۲۹۳۔

④ ... ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب فتنۃ الدجال۔۔۔ الخ، ۴/۲۰۶، حدیث: ۴۰۷۷۔

⑤ ... ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب فتنۃ الدجال۔۔۔ الخ، ۴/۲۰۶، حدیث: ۴۰۷۷۔

قرب قیامت نکلنے والا جانور ”دَابَّةُ الْأَرْضِ“ ہر شخص پر کیا نشانی لگائے گا؟
جواب ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا اور انکسٹری (یعنی انگوٹھی) سے
 ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبہ، اُس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر
 ہوں گے۔^(۱)

قیامت

قیامت کے دن لوگ قبروں سے کس حالت میں اُٹھیں گے؟
جواب قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ناخنہ شدہ
 اُٹھیں گے۔^(۲)

قیامت کے دن کون خشر کے میدان میں منہ کے بل چل کر جائیں گے؟
جواب قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر خشر کے میدان میں جائیں گے۔^(۳)

قیامت کا دن کتنے سال کا ہو گا؟
جواب پچاس ہزار سال کا۔^(۴)

منکر قیامت کا کیا حکم ہے؟

①... ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب دابة الارض، ۳۹۳/۲، حدیث: ۲۰۶۶۔

بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۲۶/۱، ملتقطاً۔

②... مسلم، کتاب الجنة وصفة نعيمها واهليها، باب فناء الدنيا۔ الخ، ص ۱۵۲۹، حدیث: ۲۸۶۹۔

③... مسلم، کتاب صفات المنافقين و احکامہم، بحشر الکافر علی وجہہ، ص ۱۵۰۸، حدیث: ۲۸۰۶۔

④... ۲۹، المعارج: ۴۔

جواب ﴿﴾ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ (1)

﴿﴾ اسرائیل علیہ السلام جب دوسری بار صور پھونکیں گے تو اپنی قبر مبارک میں سے سب سے پہلے کون باہر تشریف لائیں گے؟

جواب ﴿﴾ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ (2)

﴿﴾ میدانِ محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟

جواب ﴿﴾ ملکِ شام کی سرزمین پر۔ (3)

﴿﴾ جب اہلِ محشر شفاعت کے واسطے سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کیا فرمائیں گے؟

جواب ﴿﴾ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے: اَنَا لَهَا يَعْنِي فِي شَفَاعَتِكَ لِيَهْدِيَنِي إِلَى جَنَّةِكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (4)

﴿﴾ ”پلِ صراط“ کسے کہتے ہیں؟

جواب ﴿﴾ ”صراط“ جہنم کا پل ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، جنت کا راستہ اسکی پر ہے۔ (5)

﴿﴾ پلِ صراط کہاں نصب کیا جائے گا؟

1... منع الروض الازھر، ص ۱۹۵۔

2... ترمذی، کتاب المناقب، باب قوله صلى الله عليه وسلم۔ الخ، ۳/۸، حدیث: ۳۶۸۹۔

3... مسند احمد، حدیث بیہن حکیم، ۴/۲۳۵، حدیث: ۲۰۰۲۲۔

4... بخاری، کتاب التوحید، باب كلام الرب۔ الخ، ۴/۵۷۷، حدیث: ۷۱۰۔

5... مسند احمد، مسند السيدة عائشة، ۹/۴۱۵، حدیث: ۲۴۸۳۔ حقیقة نادیة، ۱/۲۶۸۔

جواب پل صراطِ جہنم کی پُشت پر نصب کیا جائے گا، سب سے پہلے سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہ

تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اور آپ کی امت اس پل سے گزریں گے۔ (1)

سوال کیا قیامت کا دن ہر ایک کے لئے یکساں طویل ہوگا؟

جواب نہیں، روزِ قیامت کی درازی بعض کافروں کے لئے ہزار برس اور بعض کے

لئے سچاس ہزار برس ہوگی جبکہ بندہ مومن کے لئے یہ دن فقط ایک فرض نماز کے برابر ہو گا جو دنیا میں پڑھتا تھا۔ (2)

سوال میزان کیا ہے؟

جواب وہ ترازو ہے جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس کی ایک زبان اور

دو پلڑے ہیں، نیکیاں خوبصورت شکل میں اور گناہ بری شکل میں میزان میں رکھے جائیں گے۔ (3)

سوال میدانِ محشر میں زمین کس چیز کی کردی جائے گی؟

جواب تانبے کی۔ (4)

ایمان و کفر

سوال ایمان کسے کہتے ہیں؟

1... بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: وجودہ یومئذنا ضرة۔۔ الخ، ۵۵۱/۳، حدیث: ۷۴۳۷۔

2... تفسیر خازن، پ ۲۱، السجدة، تحت الآیة: ۵، ۷۶/۳۔

3... تفسیر بغوی، پ ۸، الاعراف، تحت الآیة: ۸، ۲۲/۲، ملخصاً۔

4... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۳۲/۱۔

جواب سچے دل سے اُن سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریاتِ دین سے ہیں، ایمان کہلاتا ہے۔^(۱)

سوال کفر کسے کہتے ہیں؟

جواب کسی ایک ضرورتِ دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں اگرچہ باقی تمام ضروریاتِ دین کی تصدیق کرتا ہو۔^(۲)

سوال ضروریاتِ دین سے کیا مراد ہے؟

جواب ضروریاتِ دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ایک ہونا، انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی نُبُوَّت، نماز و زکوٰۃ، جنت و دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ۔^(۳)

سوال ایمانِ مَفْضَل و ایمانِ مُجْمَل بتائیے؟

جواب ایمانِ مَفْضَل: اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرًا وَشَرًّا مِّنْ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ط

ایمانِ مجمل: اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَبِيْمَ اَحْكَامِهٖ اِقْرَأْ اَرْبَابَ اللِّسَانِ وَتَصَدِّقْ بِالْقَلْبِ ط

سوال کیا ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ بھی ہے؟

جواب ایمان و کفر کے درمیان کوئی واسطہ (درجہ) نہیں ہے یا تو بندہ مسلمان ہو گا یا کافر

①... بہارِ شریعت، حصہ ۱، ۱۷۲-۱

②... مسامرۃ شرح مسامرۃ، مفہومِ ایمان، ص ۳۳۰۔ بہارِ شریعت، حصہ ۱، ۱۷۲-۱

③... مسامرۃ شرح مسامرۃ، مفہومِ ایمان، ص ۳۳۰

تیسری کوئی صورت نہیں کہ نہ مسلمان ہونہ کافر۔ (1)

کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دُعا کرنا کیسا ہے؟

جواب: جو کسی کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دُعا کرے یا کسی مُردہ مُرتد

کو مرحوم یا مغفور کہے وہ خود کافر ہے۔ (2)

نفاق کسے کہتے ہیں؟

جواب: زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اس کا انکار کرنا نفاق ہے اور یہ بھی

خالص کُفر ہے۔ (3)

مُرتد کسے کہتے ہیں؟

جواب: مُرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریاتِ دین

سے ہو۔ یعنی زبان سے (ایسا) کلمہ کُفر بکے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔

یونہی بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے مثلاً بُت کو سجدہ کرنا۔

مُصنّف شریف (قرآن پاک) کو نجاست کی جگہ پھینک دینا۔ (4)

شُرک کسے کہتے ہیں؟

جواب: شُرک کے معنی غیر خُدا کو واجب الوجود یا مُستحق عبادت جاننا۔ (5)

1... بہارِ شریعت، حصہ ۱، ۱۸۱/۱، مُخصّصاً۔

2... بہارِ شریعت، حصہ ۱، ۱۸۵/۱، ملقطاً۔

3... تفسیر خازن، باب ۱، البقرة، تحت الآیة ۶، ۲۵/۱۔

4... بہارِ شریعت، حصہ ۹، ۲/۲۵۵۔

5... شرح عقائد نسفیة، اللہ تعالیٰ خالق لافعال العباد، ص ۲۰۳، ملقطاً۔

اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟

جواب: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: (1) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں

(2) نماز قائم کرنا (3) زکوٰۃ دینا (4) رمضان کے روزے رکھنا اور (5) حج کرنا۔⁽¹⁾

ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟

جواب: حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کی ستر (70) سے کچھ زائد شاخیں ہیں۔⁽²⁾

حرام کو حلال اور حلال کو حرام جاننے والے کا کیا حکم ہے؟

جواب: جس چیز کی حلتِ نفسِ قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا اور جس کی حرمتِ یقینی

ہو اسے حلال بتانا کفر ہے جبکہ یہ حکم ضروریاتِ دین سے ہو یا منکر اس حکمِ قطعی

سے آگاہ ہو۔⁽³⁾

وَلَايَت

ولایت کسے کہتے ہیں؟

جواب: ولایت ایک قربِ خاص ہے کہ مولیٰ عَزَّوَجَلَّ اپنے بزرگزیدہ بندوں کو محض اپنے

فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔⁽⁴⁾

1... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الایمان والاسلام... الخ، ص ۲۱، حدیث: ۸۔

2... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان عدد شعب الایمان... الخ، ص ۳۹، حدیث: ۳۵۔

3... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۱۷۶۔

4... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۲۶۴۔

کیا کوئی ولی کسی صحابی سے افضل ہو سکتا ہے؟

جواب: کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔^(۱)

کیا اکابر اولیا بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟

جواب: اکابر اولیا کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اُن سے گناہ ہوتا نہیں، اگر ہو تو اس پر

اِضرار نہیں کرتے فوری توبہ کرتے ہیں۔^(۲)

کرامت کسے کہتے ہیں؟

جواب: ولی سے جو بات خلافِ عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔^(۳)

اولیائے کرام سے کس طرح کی کرامات ممکن ہیں؟

جواب: مُردہ زندہ کرنا، مادرِ زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک

ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، غرض تمام خلافِ عادت باتیں اولیاء

سے ممکن ہیں۔^(۴)

کراماتِ اولیا کا انکار کرنا کیسا ہے؟

جواب: کرامتِ اولیا حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے۔^(۵)

الہام کسے کہتے ہیں؟

۱... مرقاة، کتاب الفتن، ۲۸۲/۹-۲۸۳، تحت الحدیث: ۵۲۰۱۔

۲... بریفة محمودیة، الباب الثانی، الفصل الاول، مطب کرامات الاولیاء... الخ، ۲۶۵/۱۔

رسالة قشیریة، باب کرامات الاولیاء، ص ۳۸۱۔

۳... بہار شریعت، حصہ ۱، ۵۸/۱۔

۴... بہار شریعت، حصہ ۱، ۲۶۹/۱-۲۷۰۔

۵... الفقہ الاکبر، ص ۷۹۔ بہار شریعت، حصہ ۱، ۲۶۹/۱۔

جواب اولیا کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القا ہوتی ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔^(۱)

سوال وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟

جواب بُرے خیالات، فاسد فکر کو وسوسہ کہتے ہیں اور اچھے خیالات کو الہام۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، الہام رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے۔^(۲)

سوال کیا اولیائے کرام کو بھی علم غیب عطا ہوتا ہے؟

جواب جی ہاں! اولیائے کرام کو بھی علم غیب عطا ہوتا ہے مگر انبیا کے واسطے سے۔^(۳)

سوال کیا کسی جاہل، بے علم شخص کو ولایت مل سکتی ہے؟

جواب جی نہیں! ولایت بے علم کو نہیں ملتی (بلکہ اس کے لئے علم ضروری ہے) خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو، یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس پر علوم مُنْکَشَف کر دیئے ہوں۔^(۴)

سوال سب سے افضل اولیائے کرام کس اُمت کے ہیں؟

جواب سب سے افضل اولیائے کرام حُضُورِ عَلَیْہِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کی اُمت کے ہیں۔^(۵)

سوال کیا کوئی ولی احکام شرعیہ کی پابندی سے آزاد ہو سکتا ہے؟

①... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۳۵۔

②... مرآة المناجیح، ۱/۸۱۔

③... روح البیان، پ ۲۹، الجن، تحت الآیة: ۲۷، ۱۰/۲۰۱۔

ارشاد الساری، کتاب النفسین، سورۃ الرعد، تحت الحدیث: ۲۶۹، ۱۰/۳۶۹۔

④... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۲۶۴۔

⑤... الیواقیت والحوار، المبحث السابع والاربعون، الجزء الثانی، ص ۳۴۸۔

جواب: جی نہیں، کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو احکام شرعیہ کی پابندی سے شُبکدوش نہیں ہو سکتا۔ (1)

طہارت

قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت بیان کریں؟

جواب: پاکیزگی اور پاکیزہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پسند ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (پ ۱۱، التوبة: ۱۰۸) ترجمہ کنز الایمان: ”اور سترے اللہ کو پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناپاکی کو اتنا ناپسند کیا گیا کہ بغیر وضو قرآن پاک کو ہاتھ تک لگانے سے منع فرما دیا گیا، چنانچہ ارشاد ہوا: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (پ ۲، الواقعة: ۷۹) ترجمہ کنز الایمان: ”اسے نہ چھوئیں مگر با وضو۔“

پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے طہارت کی اہمیت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟

جواب: فرمایا: ”طہارت نصف ایمان ہے۔“ (2)

وہ طہارت جو نماز کی شرط ہے اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے نجاست سے پاک ہو۔ (3)

طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟

1... بہار شریعت، ۱/۲۶۶۔

2... مسلم، کتاب الطہارة، باب فضل الوضوء، ص ۱۴۰، حدیث: ۲۲۳۔

3... شرح وقایہ، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، الجزء ۱، ص ۱۵۶۔

جواب: طہارت کی دو قسمیں ہیں: (1) طہارتِ صُغریٰ (2) طہارتِ کُبریٰ۔ طہارتِ

صُغریٰ سے مراد وضو اور طہارتِ کُبریٰ سے مراد غسل ہے۔ (1)

طہارت کے بغیر نماز پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟

جواب: بلا عذر جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کُفر ہے جبکہ اسے جائز سمجھے یا

اِستہزاء (یعنی مذاق اڑاتے ہوئے) یہ فعل کرے۔ (2)

مچھلی، مچھریا مکھی وغیرہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟

جواب: مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدھے کا

لُعب اور پسینہ پاک ہے۔ (3)

بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟

جواب: گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ (4)

کتے کا لُعب کیا حکم رکھتا ہے؟

جواب: کتے کا لُعب ناپاک ہے۔ (5)

کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟

1... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/۲۸۲۔

2... منہج الروض الازھر، ص ۱۷۲۔

3... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/۳۹۳۔

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثالث فی المیاء، الفصل الثانی، ۱/۲۴۔

رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب المیاء، فصل فی البش، مطلب فی السؤن، ۱/۲۲۶۔

5... رد المحتار، کتاب الطہارۃ، مطلب فی السؤن، ۱/۲۲۵۔

جواب جی نہیں، ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔⁽¹⁾

کن پرندوں کی بیٹ پاک ہے؟

جواب جو پرند حلال اُونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغابی، ان کی بیٹ پاک ہے۔⁽²⁾

ناپاک کارپیٹ (CARPET) کو کیسے پاک کیا جائے؟

جواب کارپیٹ کا ناپاک حصہ بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ چٹائی، چمڑے کے چپل اور مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں تیلی نجاست جذب ہو جاتی ہو اسی طریقے پر پاک کیجئے۔⁽³⁾

دوسرے کے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی تو کیا کیا جائے؟

جواب کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے کہ اس کو خبر کرے گا تو پاک کر لے گا تو خبر کرنا واجب ہے۔ (ایسی صورت میں خبر نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا)۔⁽⁴⁾

1... درمختار کتاب الطہارۃ، باب الانجاس، ۱/ ۵۷۴۔

2... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/ ۳۹۔

3... اسلامی بہنوں کی نماز، ص ۲۶۳۔

4... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/ ۴۰۵۔

وُضُو

وُضُو سے متعلق قرآنِ پاک میں کیا ارشاد ہوا؟

جواب وُضُو کے متعلق قرآنِ پاک میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَآرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ﴾ (ب، ۶، السائدہ: ۶) ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو
جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھوؤ اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا
مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھوؤ۔

حدیثِ پاک میں وُضُو کی کیا فضیلت آئی ہے؟

جواب حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”جب آدمی وُضُو کرتا ہے تو ہاتھ

دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے
سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔“ (1)

ہمیشہ با وضو رہنے والے کو کونسی سات فضیلتیں ملتی ہیں؟

جواب (1) ملائکہ اُس کی صحبت میں رغبت کریں (2) قلم اُس کی نیکیاں لکھتا رہے

(3) اُس کے اعضاء تسبیح کریں (4) اُس سے تکبیرِ اولی فوت نہ ہو (5) جب سوائے اللہ

تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اُس کی حفاظت کریں

(6) سکرَاتِ موت اس پر آسان ہو (7) جب تک با وضو ہو امانِ الہی میں رہے۔ (2)

1... مستدام احمد، ۱/۱۳۰، حدیث: ۳۱۵۔

2... فتاویٰ رضویہ، ۱/۷۰۳۔

۱. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟

جواب: وضو میں چار فرض ہیں: (1) مونہ دھونا (2) کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا (3) سر کا مسح کرنا (4) ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ (1)

۲. کسی عضو کو دھونے کے کیا معنی ہیں؟

جواب: کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہیں کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم دو بوند پانی بہہ جائے۔ بھیک جانے یا تیل کی طرح پانی پچھڑ لینے یا ایک آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو۔ (2)

۳. کیا مسواک نماز کے لئے سنت ہے یا وضو کے لئے؟

جواب: مسواک نماز کے لئے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے، توجو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے، اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں، جب تک تغیر رائحہ (سانس بدبودار) نہ ہو گیا ہو، ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے۔ (3)

۴. ہاتھ وغیرہ سے خون نکلنے کے باوجود کب وضو نہیں ٹوٹتا؟

جواب: خون نکلا لیکن بہا نہیں تو یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ (4)

۵. خون نکل کر بہہ گیا مگر وضو نہ ٹوٹا، اس کی کیا صورت ہے؟

جواب: اگر خون بہا مگر بہہ کر ایسی جگہ نہیں پہنچا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو

۱... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/۲۸۸۔

۲... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/۲۸۸۔

۳... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/۲۹۵۔

۴... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول فی الوضوء، الفصل الخامس، ۱/۱۰۔

مثلاً خون نکل کر آنکھ یا کان میں بہا مگر ان سے باہر نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ (1)

انجکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟

جواب: گوشت میں انجکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جب کہ

بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔ (2)

کیا انس کا انجکشن لگانے یا ٹیسٹ کیلے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟

جواب: انس کا انجکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا

ہے لہذا وضو ٹوٹ جاتا ہے یونہی سرنج کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون

نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے۔ (3)

کیا گلو کوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: گلو کوز وغیرہ کی ڈرپ انس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیوں کہ بہنے کی

مقدار میں خون نکل کر نکلی میں آ جاتا ہے۔ (4)

دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کا کیا حکم ہے؟

جواب: آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ (5)

غُسل

غُسل کے کتنے فرائض ہیں؟

1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول فی الوضوء، الفصل الرابع، فی المکر وہات، 1/11 -

2... نماز کے احکام، ص ۲۷ -

3... نماز کے احکام، ص ۲۶-۲۷ -

4... نماز کے احکام، ص ۲۶ -

5... درمختار وورد المحتار، کتاب الطہارۃ، 1/۲۹۰ -

جواب غُسل کے تین فرائض ہیں: (1) کھلی کرنا (2) ناک میں پانی چڑھانا (3) تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔⁽¹⁾

”تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا“ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس سے مراد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پُرزے اور ہر روٹھے پر پانی بہہ جائے، اگر ایک ذرہ بھر جگہ یا کسی بال کی نوک بھی پانی بہنے سے رہ گئی تو غُسل نہ ہو گا۔⁽²⁾

مرد کے بال اگر گندھے ہوئے ہوں تو غُسل کس طرح ہو گا؟

جواب اگر مرد کے سر کے بال گندھے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے۔⁽³⁾

اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا غُسل ہو جائے گا؟

جواب اگر نیل پالش ناخنوں پر لگی ہوئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے ورنہ غُسل نہیں ہو گا۔⁽⁴⁾

اگر ہاتھ میں سیاہی کی تہ لگی رہ جائے تو کیا غُسل ہو جائے گا؟

جواب پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن میں سیاہی کا جِرم، عام لوگوں کے لیے مکھی، چھھر کی بیٹ لگی ہوئی رہ گئی اور توجہ نہ رہی تو غُسل ہو

1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی الغسل، الفصل الاول فی فرائضہ، ۱/۱۳۔

2... فتاویٰ رضویہ، ۱/۴۴۳-۴۴۴، ملتقط۔

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی الغسل، الفصل الاول، ۱/۱۳۔

4... نماز کے احکام، ص ۱۰۶۔

جائے گا، ہاں معلوم ہو جانے کے بعد جُدا کرنا اور اس جگہ کا دھونا ضروری ہے پہلے جو نماز پڑھی وہ ہوگئی۔^(۱)

بہتے پانی میں غسل کا کیا طریقہ ہے؟

جواب: اگر بہتے پانی مثلاً دریا یا نہر میں غسل کیا تو تھوڑی دیر اس میں رُکنے سے تین بار دھونے، ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔^(۲)

عورت کے بال اگر گندھے ہوئے ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟

جواب: عورت پر صرف بالوں کی جڑ ترکر لینا ضروری ہے کھولنا ضروری نہیں، ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندھی ہوئی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔^(۳)

جن پر غسل فرض ہو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟

جواب: جن پر غسل فرض ہو ان کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔^(۴)

ناپاکی کی حالت میں دُرود شریف پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: جن پر غسل فرض ہو ان کو دُرود شریف اور دُعائیں پڑھنے میں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کُلی کر کے پڑھیں۔^(۵)

ایسے دن غسل فرض ہوا جس دن غسل کرنا سنت یا مستحب ہے تو کیا اسے فرض

۱... فتاویٰ رضویہ، ۱/۲۵۵۔

۲... درمختار و رد المحتار، کتاب الطہارۃ، ۱/۳۲۰-۳۲۱۔ بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/۳۲۰، ملقطاً۔

۳... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی الغسل، الفصل الاول، ۱/۱۳۔

۴... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السادس، الفصل الرابع، ۱/۳۸۔

۵... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/۳۲۷۔

کے ساتھ دوسرا غسل الگ سے کرنا ہوگا؟

جواب: جس پر چند غسل ہوں مثلاً عید بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی مزید فرض غسل بھی ہو تو

تینوں کی نیت کر کے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے اور سب کا ثواب ملے گا۔⁽¹⁾

کن ایام میں غسل کرنا سنت ہے؟

جواب: جمعہ، عید الفطر، بقر عید، عرفہ کے دن (یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام) اور احرام باندھتے

وقت نہانا سنت ہے۔⁽²⁾

کن مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے؟

جواب: (1) وقوفِ عرفات (2) وقوفِ مزدلفہ (3) حاضریِ حرم (4) حاضریِ سرکارِ اعظم

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (5) دُخُولِ مِنَى (6) جمروں پر کنکریاں مارنے کے لئے

تینوں دن (7) شبِ براءت (8) شبِ قدر (9) طواف (10) عرفہ کی رات (11)

مجلس میلاد شریف (12) دیگر مجالس خیر میں حاضری کے لئے (13) مُردہ نہلانے

کے بعد (14) مجنون کو جنون جانے کے بعد (15) غشی سے افاقہ کے بعد۔⁽³⁾

تَيْمَم

قرآن پاک میں تیمم کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: قرآن پاک میں ارشاد ہوا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ

1... رد المحتار کتاب الطہارۃ، مطلب: یوم عرفۃ افضل... الخ، 1/321۔

2... فتاویٰ ہندیہ، الباب الثالث، الفصل الاول، 1/16۔

3... بہار شریعت، حصہ 1، 1/322-325، درمختار وورد المحتار، 1/321-323۔

فَمِنْ الْعَاطِلِ أَوْ لَسْتُمْ لِّلنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴿٦﴾ (پ ۶، المائدة: ۶) ترجمہ کنز الایمان: اور اگر
تم بیمار یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے
صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور
ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔

حدیث پاک میں تیمم کے متعلق کیا آیا ہے؟

جواب: نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”پاک مٹی مسلمان کا وضو
ہے اگرچہ دس برس پانی نہ پائے۔“ (1)

تیمم کا حکم کب اور کس مقام پر نازل ہوا؟

جواب: تیمم کا حکم ہجرت کے پانچویں سال مقام بیداء یا ذات النخیش میں نازل ہوا۔ (2)

آیت تیمم کو کس کی برکت کہا گیا؟

جواب: حضرت سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی آل کی۔ (3)

تیمم کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟

جواب: تیمم میں تین فرائض ہیں: (1) نیت (2) سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا (3) دونوں

ہاتھ کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ (4)

1... مسند احمد، ۸/۸، حدیث: ۲۱۲۲۹۔

2... بخاری، کتاب التیمم، باب التیمم، ۱/۱۳۳، حدیث: ۳۳۲۔ سیرت مصطفیٰ، ص ۳۲۰۔

3... بخاری، کتاب التیمم، باب التیمم، ۱/۱۳۳، حدیث: ۳۳۲۔

4... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/۳۵۳-۳۵۵۔

تیمم کی کتنی اور کون کونسی سنتیں ہیں؟

جواب تیمم کی دس سنتیں ہیں: (1) بِسْمِ اللّٰهِ شَرِيفِ كَهْنَا (2) ہاتھوں کو زمین پر مارنا (3) زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا (یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا) (4) انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا (5) ہاتھوں کو جھاڑ لینا (6) پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا (7) دونوں کا مسح پے در پے ہونا (8) پہلے سیدھے پھر اٹے ہاتھ کا مسح کرنا (9) داڑھی کا خلال کرنا (10) انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو۔⁽¹⁾

کس صورت میں انگلیوں کا خلال کرنا فرض ہے؟

جواب اگر (انگلیوں میں) غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے۔⁽²⁾

تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے؟

جواب جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے وہ زمین کی جنس (یعنی قسم) سے ہے اس سے تیمم جائز ہے۔⁽³⁾

تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غُسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔⁽⁴⁾

وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟

① ... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/۳۵۶۔

② ... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱/۳۵۶۔

③ ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، الفصل الاول، ۱/۲۶۔

④ ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، الفصل الثانی، ۱/۲۹۔

جواب: وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔^(۱)

کیا زم زم شریف کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا جاسکتا ہے؟

جواب: اگر اتنا آب زم زم شریف پاس ہے جو وضو کیلئے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں۔^(۲)

کیا نمک سے تیمم جائز ہے؟

جواب: جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں اور جو کان سے نکلتا ہے جیسے

سیندھا نمک اس سے جائز ہے۔^(۳)

اذان و اقامت

اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے؟

جواب: اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن

حضرت سیدنا بلال حبشی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہیں۔^(۴)

دین اسلام میں اذان کو کیا اہمیت حاصل ہے؟

جواب: اذان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پانچوں فرض نمازیں بشمول جمعہ

مبارک جب جماعتِ مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے

لیے اذانِ سنتِ مؤکدہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو

①... جوہرۃ النيرة، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، ص ۲۸۔

②... فتاویٰ تارخانیۃ، کتاب الطہارۃ، الفصل الخامس فی التیمم، نوع آخر فی بیان شرائطہم، ۱/۲۳۲۔

③... بہار شریعت، حصہ ۱، ۲/۳۵۸۔

④... شرح المواہب، باب بدء الاذان، ۲/۹۵۔ مسند احمد، مسند الانصار، ۸/۲۶۴۔

الاوائل للطبرانی، باب اول من اذن، ص ۱۱۶، رقم: ۸۵۔

وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ ”فتاویٰ خانہ“ میں ہے: اذان شعائرِ اسلام میں سے ہے حتیٰ کہ اگر کسی شہر، بستی یا محلہ کے لوگ اذان کہنا چھوڑ دیں تو حاکم انہیں اس پر مجبور کرے گا اور اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو ان سے لڑائی کرے گا۔^(۱)

کیا پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اذان دینا ثابت ہے؟

جواب جی ہاں! حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سفر میں اذان دینا ثابت ہے جس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کلماتِ شہادت یوں ارشاد فرمائے: اَشْہَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللہِ۔^(۲)

آنکھیں دکھنے سے حفاظت کا کوئی عمل بتائیں؟

جواب حضرت سیدنا خضر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں جو شخص موذن سے اَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللہِ سن کر مَرَحَبًا بِحَبِیْبِیْ وَفَرَاةً عَیْنِیْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَسَلَّم کہے پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں۔^(۳)

پانچوں نمازوں کی اذان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟

①... بہار شریعت، حصہ ۳، ۱/۲۶۲ ماخوذاً۔ فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثانی فی الاذان، ۱/۵۳۔

درمختار، کتاب الصلاة، ۲/۶۰۔ فتاویٰ خانہ، کتاب الصلاة، باب الاذان، ۱/۳۲۔

②... جدامنن باب الاذان، ۳/۸۱۔ فتاویٰ رضویہ، ۵/۳۷۔

③... المقاصد الحسنہ، حرف المیم، ص ۳۹۰، تحت الحدیث: ۱۰۲۱۔

جواب تین کروڑ چوبیس لاکھ (32400000)۔^(۱)

آذان دینے والا کیسا ہو؟

جواب مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد، عاقل، صالح، پرہیزگار، عالم بالسنۃ، ذی وجاہت،

لوگوں کے احوال کا نگران اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں، ان کو زجر

کرنے والا ہو، آذان پر مداومت (بیٹنگلی) کرتا ہو اور ثواب کے لیے آذان کہتا ہو۔^(۲)

حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے کتنے مؤذن تھے؟

جواب حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے پانچ مؤذن تھے: (۱) حضرت

سیدنا بلال بن رباح رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (۲) حضرت سیدنا عمرو بن اُمّ مکتوم رَضِيَ اللهُ

تَعَالَى عَنْهُ (۳) حضرت سیدنا سعد بن عابد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (۴) حضرت سیدنا ابو

مخدرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور (۵) حضرت سیدنا زیادہ بن حارث صدائی رَضِيَ اللهُ

تَعَالَى عَنْهُ۔^(۳)

تلاوت قرآن کے دوران آذان شروع ہو جائے تو کیا کرے؟

جواب جب آذان ہو تو اتنی دیر کیلئے سلام و کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف

کر دیجئے یہاں تک کہ تلاوت بھی، آذان کو غور سے سنئے اور جواب دیجئے۔

اقامت میں بھی اسی طرح کیجئے۔^(۴)

۱... فیضان آذان، ص ۶۔

۲... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی فی الاذان، الفصل الاول، ۱/۵۳۔

۳... مجموعۃ رسائل اللکھنوی، خیر الخیر فی آذان خیر البشر، ۳/۳۲۸۔

۴... فیضان آذان، ص ۱۲۔

کیا اذان ہو جانے کے بعد بھی اذان کا جواب دیا جاسکتا ہے؟

جواب: اگر بوقت اذان جواب نہ دیا اور زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے سکتے ہیں۔^(۱)

بوقت اذان باتیں کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟

جواب: جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر مَعَاذَ اللّٰهِ خاتمہ بُرا ہونے کا خوف ہے۔^(۲)

کیا اذان صرف نمازوں کے لیے دی جاسکتی ہے؟

جواب: جی نہیں! بلکہ درج ذیل مواقع پر بھی اذان دینا مستحب ہے: (۱) بچے (۲) غمگین (۳) مرگی والے (۴) غُضَبَناک اور بد مزاج آدمی اور (۵) بد مزاج جانور کے کان میں (۶) لڑائی کی شدت کے وقت (۷) آگ لگنے کے وقت (۸) میت دفن کرنے کے بعد (۹) جِن کی سرکشی کے وقت (یا کسی پر جن سوار ہو) (۱۰) اُس وقت جب جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو۔^(۳) اور (۱۱) وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔

اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اس کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا کیسا؟

جواب: اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے جب اقامت کہنے والا حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔
یوہیں جو لوگ مسجد میں موجود ہیں، وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں، جب

①... رد المحتار کتاب الصلاة، باب الاذان، مطلب: فی کراهة نکرار الجماعة فی المسجد، ۲/ ۸۱۔

②... بہار شریعت، حصہ ۳، ۱/ ۳۷۳۔

③... فتاویٰ رضویہ، ۵/ ۳۷۰۔

اقامت کہنے والا حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ پر پہنچے، یہی حکم امام کے لیے ہے۔ (1)

نماز

حدیث پاک میں نماز کا چور کسے کہا گیا ہے؟

جواب: نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی: یا رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! نماز کا چور کون ہے؟ ارشاد فرمایا: جو رُكُوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ (2)

اللہ تعالیٰ کیسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا؟

جواب: پیارے آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بندے کی اُس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رُكُوع و سجد کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ (3)

طویل قیام کرنا افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا؟

جواب: نماز میں قیام طویل ہونا کثرتِ رُكُعات سے افضل ہے یعنی جب کہ کسی وقتِ مُعَيَّن تک نماز پڑھنا چاہے مثلاً دو رکعت میں اتنا وقت صرف کر دینا چار رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ (4)

1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی فی الأذان، الفصل الثانی، ۱/۵۷۔

2... مسند احمد، حدیث ابی قتادۃ الانصاری، ۳۸۶/۸، حدیث: ۲۲۷۰۵۔

3... مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ، ۳/۶۱۷، حدیث: ۱۰۸۰۳۔

4... بہار شریعت، حصہ ۴، ۱/۶۶۷۔

کس نماز کی جماعت میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟

جواب: اگر فرض چھوٹ جانے کے علاوہ کسی سبب سے نماز باجماعت دہرائی جا رہی ہو تو نیا آنے والا مقتدی اُس میں شریک نہیں ہو سکتا، البتہ اگر ترک فرض کے سبب دہرائی جائے تو نیا شخص شریک ہو سکتا ہے۔⁽¹⁾

ایک رکن میں کتنی بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟

جواب: ایک رکن میں تین بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹالیا پھر کھجایا پھر ہٹالیا، یہ دوبار ہوا اگر اب اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی۔⁽²⁾

کب امین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی کوئی صورت بیان کریں؟

جواب: نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو دوسرے نے کہا: یٰٰرْحَمٰکَ اللّٰہ، اس پر چھینک والے نے امین کہا تو اس صورت میں امین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔⁽³⁾

نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا چاہے پورا منہ پھیرا یا تھوڑا کمروہ تحریمی ہے، منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھرا کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا کمروہ تنزیہی ہے اور نادرا کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاً حرج نہیں، حالت نماز میں

①... فتاویٰ رضویہ، ۷/۵۲۔

②... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب السابع فیما یفسد الصلاۃ، النوع الثاني، ۱/۱۰۴۔

غنیۃ المتملی، مفسدات الصلاۃ، ص ۲۲۸۔

③... غنیۃ المتملی، کتاب الصلاۃ، فصل فیما یفسد الصلاۃ، ص ۲۳۹۔

نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔^(۱)

سُترہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کتنی ہو؟

سُترہ نمازی کے آگے کسی ایسی چیز کا ہونا جس سے اڑ ہو جائے اُسے سُترہ کہتے ہیں۔

سُترہ بقدر ایک ہاتھ کے اونچا اور انگلی برابر موٹا ہو۔^(۲)

کس صورت میں دورانِ جماعت ایک شخص نمازیوں کے آگے سے گزرنے

کے باوجود گناہ گار نہیں ہوتا؟

جب امام کے آگے سُترہ موجود ہو تو اب امام کا سُترہ مقتدیوں کے لیے بھی سُترہ

ہے، ان کے لئے الگ سُترہ کی حاجت نہیں، اس صورت میں کوئی مقتدیوں

کے آگے سے گزرا تو گناہ گار نہیں۔^(۳)

نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟

نماز میں مُصحف شریف (قرآن پاک) سے دیکھ کر قرآن پڑھنا مُطلقاً مُفسدِ نماز

ہے، یوہیں اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہو اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مُفسدِ ہے، ہاں

اگر یاد پر پڑھتا ہو مُصحف یا محراب پر فقط نظر ہے، تو حرج نہیں۔^(۴)

تعدیلِ ارکان کسے کہتے ہیں؟

تعدیلِ ارکان یعنی رُکوع، سُجود، قُومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار ”سُبْحَانَ

۱... بہار شریعت، حصہ ۱، ۳/۶۲۶ طحطا۔

۲... بہار شریعت، حصہ ۱، ۳/۶۱۵۔

۳... رد المحتار کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، مطلب اذا قرأ قوله... الخ، ۲/۲۸۷۔

۴... بہار شریعت، حصہ ۱، ۳/۶۰۹۔

اللہ“ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔^(۱)

عمل کثیر کیا ہے اور کب اس سے نماز فاسد ہوتی ہے؟

عمل کثیر کہ نہ اعمال نماز سے ہونہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، نماز فاسد کر دیتا ہے، جس کام کے کرنے والے کو دُور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے، بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے۔^(۲)

نماز کی شرائط

نماز کی کتنی اور کون کونسی شرائط ہیں؟

نماز کی چھ شرائط ہیں (۱) طہارت (۲) سترِ عورت (۳) استقبالِ قبلہ (۴) وقت (۵) نیت (۶) تکبیر تحریمہ۔^(۳)

وہ کونسی جگہ ہے جہاں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

کعبہ شریف کی عمارت کے اندر یا اس کی چھت پر نماز پڑھے تو جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔^(۴)

وہ کونسا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں؟

چڑایا ہوا کپڑا یا دھوبی وغیرہ کے یہاں سے بدلا ہوا کپڑا اگرچہ پاک و صاف ہو مگر اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے، نماز واجب الاعدادہ

۱... درمختار ورد المعنان کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: قد يشاء الرائي المتي... الخ، ۲/۱۹۳۔

۲... بہار شریعت، حصہ ۳، ۱/۶۰۹ ملتقطاً۔

۳... درمختار کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ۲/۸۹۔

۴... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثالث فی شروط الصلاة، الفصل الثالث فی استقبال القبلة، ۱/۶۳۔

ہوگی اور ایسے کپڑے کا پہننا مرد و عورت سب کو حرام ہے۔^(۱)

وہ کون ہے جو پانی پر قدرت اور یاد ہوتے ہوئے بغیر وضو نماز پڑھے تو گناہ گار نہیں؟

جواب: نابالغ بچہ ایسا کرے تو گناہ گار نہیں کیونکہ نابالغ پر وضو فرض نہیں۔^(۲) مگر ان سے وضو کرانا چاہئے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آجائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائیں۔

وہ کونسی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب: ایسی نجس زمین جو دھوپ یا ہوا سے پاک ہو گئی اس پر مُصَلِّاً بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں۔^(۳)

مکروہ اوقات کتنے اور کون کونسے ہیں؟

جواب: مکروہ اوقات تین ہیں: (۱) طلوع آفتاب سے لیکر ۲۰ منٹ بعد تک (۲) غروب آفتاب سے ۲۰ منٹ پہلے (۳) نِصْفُ النَّهَارِ یعنی ضُحُوۃ کبریٰ سے لیکر زوال آفتاب تک۔^(۴)

ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو کیا حکم ہے؟

①... فتاویٰ رضویہ، ۷/۲۹۸، ۳۹۴، ملتقطاً۔

②... رد المحتار کتاب الطہارۃ، مطلب فی اعتبارات المركب التام، ۲۰۲/۱۔

③... شرح وقایہ، کتاب الطہارۃ، باب التیمم، الجزء ۱، ص ۹۸۔

④... در مختار و رد المحتار، کتاب الصلاۃ، مطلب: یشتراط العلم بدخول الوقت، ۲/۳۷-۳۰۔

بہار شریعت، حصہ ۱، ۳/۴۵۳، ملخصاً۔

جواب: بلا ضرورت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو مکروہ ہے ہاں جس جگہ

پاؤں رکھنا ہے وہ جگہ ناپاک ہے تو ایک پاؤں اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔^(۱)

سجدے میں پیشانی پاک جگہ جبکہ ناک نجس جگہ پر ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟

جواب: جی ہاں نماز ہو جائے گی کہ ناک درہم سے کم جگہ پر لگتی ہے لیکن بلا ضرورت یہ

بھی مکروہ ہے۔^(۲)

اگر نماز کی حالت میں صرف منہ قبلے سے پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟

جواب: اگر منہ قبلے سے پھیرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی جانب کر لے اس صورت

میں نماز فاسد نہ ہوگی لیکن بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے۔^(۳)

اگر کسی نے نماز کی یوں نیت کی کہ ”میں چار رکعت مغرب کی یا تین رکعت ظہر

کی ادا کرتا ہوں“ نماز ہو جائے گی؟

جواب: جی ہاں نماز ہو جائے گی کیونکہ نیت میں تعداد رکعات کی ضرورت نہیں البتہ

افضل ضرور ہے۔^(۴)

امام نے اگر کسی مخصوص شخص کے متعلق یہ قصد کر لیا کہ ”میں فلاں کا امام

نہیں ہوں“ تو ایسی صورت میں اس شخص کی نماز ہوگی یا نہیں؟

جواب: اس شخص کی نماز ہو جائے گی کیونکہ امام کو نیت امامت کرنا ضروری نہیں۔^(۵)

۱... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ۹۲/۲

۲... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ۹۲/۲۔

۳... منیة المصلی، الشرط الرابع وهو استقبال القبلة، ص ۲۲۳-۲۲۴۔

۴... درمختار و رد المحتار، کتاب الصلاة، مطلب فی حضور القلب والخشوع، ۱۲۱/۲۔

۵... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثالث فی شروط الصلاة، الفصل الرابع فی النیة، ۶۶/۱۔

ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی جس میں بدن نظر آتا ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟
جواب اتنا باریک کپڑا جس میں بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں اس میں نماز پڑھی
 تو نماز نہ ہوگی۔^(۱)

نماز کے فرائض

نماز کے فرائض کتنے اور کون کونسے ہیں؟
جواب نماز کے سات فرائض ہیں: (۱) تکبیر تحریمہ (۲) قیام (۳) قرأت (۴) رُکوع
 (۵) سُجود (۶) قعدہ اخیرہ (۷) خُروج بِصُنْعِهِ۔^(۲)

نماز میں قرأت کس طرح کرنی چاہیے؟
جواب قرأت اس طرح کرنی چاہیے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کئے جائیں کہ ہر
 حرف دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز (نمایاں) ہو جائے۔^(۳)

مقتدی نے تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم کر لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
جواب مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ ”اللہ“ امام کے ساتھ کہا مگر ”اُنْکَبَر“ امام سے
 پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔^(۴)

جو رُکوع میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ کا ”عظیم“ صحیح ادا نہ کر سکے وہ کیا پڑھے؟

۱... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثالث فی شروط الصلاة، الفصل الاول فی الطهارة وستر العورة، ۱/۵۸۔

۲... درمختار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۲/۱۵۸-۱۷۰۔

۳... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الرابع فی صفة الصلاة، الفصل الاول، ۱/۲۹۔

۴... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الرابع، الفصل الاول، ۱/۲۸-۲۹۔

جواب ﴿ اُسے چاہیے کہ وہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْكَبِيرِ“ پڑھے۔ (1)

﴿ رُكُوعِ كَادِنِي دَرَجَةٍ كَيْفَ هِيَ؟

جواب ﴿ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹے کو پہنچ جائے، یہ رُكُوعِ كَادِنِي دَرَجَةٍ ہے۔ (2)

﴿ رُكُوعِ كَامِلِ دَرَجَةٍ كَيْفَ هِيَ؟

جواب ﴿ اتنا جھکنا کہ پیٹھ سیدھی بچھادے یہ رُكُوعِ كَامِلِ دَرَجَةٍ ہے۔ (3)

﴿ ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟

جواب ﴿ ہر رکعت میں دو بار سجدہ فرض ہے۔ (4)

﴿ سجدے میں پیشانی جمنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب ﴿ جمنے کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا

کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا۔ (5)

﴿ نماز میں تکبیر تحریمہ کی بجائے سُبْحَانَ اللَّهِ کہہ کر نماز شروع کی تو کیا حکم ہے؟

جواب ﴿ اس صورت میں نماز شروع ہو جائے گی لیکن اللَّهُ أَكْبَرُ کی جگہ سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا

مکروہ تحریمی ہے۔ (6)

﴿ کس صورت میں سامنے نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے؟

1... رد المحتار کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: قراءة البسملة... الخ، ۲/۲۲۲۔

2... درمختار کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۲/۱۶۵۔

3... حاشیة طحطاوی، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وازکانتها، ص ۲۲۹۔

4... درمختار وورد المحتار کتاب الصلاة، ۲/۱۶۷۔

5... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الرابع، الفصل الاول، ۱/۷۰، نماز کے احکام، ص ۲۱۳، ملقطاً۔

6... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الرابع فی صفة الصلاة، الفصل الاول فی فرائض الصلاة، ۱/۶۸۔

جواب جب بھیڑ بہت زیادہ ہو تو سامنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے جبکہ وہ اس کی نماز میں شریک ہو۔ (1)

سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟

جواب فرض ادا ہو جائے گا لیکن ایسا کرنے سے گناہ گار ہو گا اور نماز پھر سے پڑھنی واجب ہوگی۔ (2)

قرأت کی جگہ صرف بِسْمِ اللہ پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟

جواب نماز نہیں ہوگی کیونکہ صرف بِسْمِ اللہ پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ (3)

واجبات نماز اور سجدہ سہو

واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا حکم ہے؟

جواب واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ (4)

سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے؟

جواب التَّحِيَّاتِ پڑھ کر بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے، سیدھی

طرف سلام پھیر کر دو سجدے کیجئے پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر

سلام پھیر دیجئے۔ (5)

1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الرابع فی صفة الصلاة، الفصل الاول فی فرائض الصلاة، ۱/۷۰۔

2... درمختار کتاب الصلاة، ۱۹۳/۲، بہار شریعت، حصہ ۱، ۵۱۶/۳۔

3... درمختار کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ۲۳۶/۲، بہار شریعت، حصہ ۱، ۵۱۲/۳۔

4... درمختار ورود المعتنان کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ۲۵۱/۲، ۲۵۵۔

5... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ۱/۱۲۵۔

اگر دہنی طرف سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟

جواب: اگر بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ

تزیہی ہے۔ (1)

سجدہ سہو کے بعد التَّحِيَّات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: سجدہ سہو کے بعد بھی التَّحِيَّات پڑھنا واجب ہے۔ (2)

قیام میں کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کچھ دیر سوچتا رہا کہ کونسی سورت پڑھوں

تو کیا حکم ہے؟

جواب: اگر بقدر اداے رُکن یعنی جتنی دیر میں 3 بار ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہہ لیتا اتنے وقت

تک سوچتا رہا تو سجدہ سہو لازم ہے۔ (3)

اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو کیا حکم ہے؟

جواب: اصل حکم یہ ہے (کہ) سجدہ سہو واجب ہوا اگر نہ کیا نماز مکروہ تحریمی ہوئی جس

کا اعادہ واجب (ہے)۔ (4)

جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو کیا حکم ہے؟

جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا

واجب ہے۔ (5)

1... درمختار، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ۲/۶۵۳۔

2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، ۱/۱۲۵۔

3... فتاویٰ رضویہ، ۸/۱۷۷، ملقطاً۔

4... فتاویٰ رضویہ، ۸/۱۷۸، ملقطاً۔

5... درمختار وورد المختار، کتاب الصلاة، باب: سجود السہو، ۲/۶۵۵۔

فرض ترک ہو گیا تو کیا سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی؟

جواب: فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی لہذا دوبارہ پڑھئے۔^(۱)

نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟

جواب: قیام کے علاوہ دیگر ارکان میں قرآن مجید پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔^(۲)

ایک سے زائد واجب ترک ہوئے تو کتنے سجدہ سہو کرنے ہوں گے؟

جواب: نماز میں اگرچہ دس واجب ترک ہوئے، سہو کے دو ہی سجدے سب کیلئے کافی ہیں۔^(۳)

قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ يَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا کہہ لیا تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑے گا؟

جواب: فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں ایسا ہو تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔^(۴)

کس صورت میں نمازی سلام پھیرنے کے باوجود نماز سے باہر نہیں ہوتا؟

جواب: جس پر سجدہ سہو واجب ہو مگر سہو ہونا یا دنہ ہو تو اس صورت میں سلام پھیرنے کے باوجود نماز کے باہر نہیں بشرطیکہ سجدہ سہو کر لے لہذا جب تک کوئی فعل

۱... درمختار و رد المحتار کتاب الصلاة باب: سجود السہو ۲/۲۵۵۔

۲... رد المحتار کتاب الصلاة باب سجود السہو ۲/۲۵۵، بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۳/۱۷۳۔

۳... درمختار و رد المحتار کتاب الصلاة باب: سجود السہو ۲/۲۵۵۔

۴... درمختار و رد المحتار کتاب الصلاة باب سجود السہو ۲/۲۵۵۔

منافی نماز نہ کیا ہو اُسے حکم ہے کہ سجدہ سہو کرے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر نماز پوری کرے۔^(۱)

نماز وتر

نماز وتر کا وقت کب سے کب تک ہے؟

جواب: وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔^(۲)

نماز وتر کب ادا کرنا افضل ہے؟

جواب: جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو اس کے لیے افضل ہے کہ رات کے آخری حصے میں

اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وتر۔^(۳) حدیث پاک میں ہے: ”جس شخص کو یہ

خَدَشَہ ہو کہ وہ رات کے پچھلے پہر نہیں اٹھ سکے گا وہ وتر پڑھ کر سویا کرے اور

جس شخص کو رات کے اٹھنے پر اعتماد ہو وہ رات کے پچھلے پہر وتر پڑھے“^(۴)

نماز وتر کا حکم بتائیے؟

جواب: نماز وتر واجب ہے۔^(۵) اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔^(۶)

وتر میں تکبیر قنوت کہنے کا کیا حکم ہے؟

①... درمختار وورد المختار، کتاب الصلاة، باب سجود السہو، ۶۷۰/۲-۶۷۱۔

②... سراقی الفلاح وحاشیة طحطاوی، ص ۱۷۸۔

③... غنیة المنلی، ص ۴۰۳۔

④... مسلم، کتاب صلاة المسافرین وقصرھا، باب من خاف ان لا یقوم... الخ، ص ۳۸۰، حدیث: ۷۵۵۔

⑤... بحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الوتر والتوافل، ۶۶/۲۔

⑥... درمختار وورد المختار، کتاب الصلاة، مطلب: فی منکر الوتر... الخ، ۵۳۲/۲۔

جواب: تیسری رکعت میں قراءت کے بعد تکبیر قنوت کہنا واجب ہے۔ (1)

مشہور دعائے قنوت کونسی ہے؟

جواب: مشہور دعائے قنوت یہ ہے: ”اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ

وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْنَا وَتَنْبِئُنَا عَنَّا الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُحَدِّثُكَ وَنَذْكُرُكَ مَنْ

يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ وَلَكَ نَصَلُّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْأَلُ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو

رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ“ (2)

جو شخص دعائے قنوت نہ پڑھ سکے تو وہ کیا پڑھے؟

جواب: وہ یہ پڑھے: ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتَّعَانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ“ یا تین مرتبہ یہ پڑھے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ (3)

اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟

جواب: اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو واپس نہ لوٹے بلکہ

سجدہ سہو کر لیجئے۔ (4)

دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھی جائے یا آہستہ؟

جواب: دعائے قنوت آہستہ آواز سے پڑھے امام ہو یا مُنْفَرِدٍ یا مُقْتَدِي، ادا ہو یا قضا،

رمضان میں ہو یا اور دنوں میں۔ (5)

1... درمختار وورد المحتان كتاب الصلاة، مطلب: في منكر الوتر... الخ، ۲/۵۳۳۔

2... نماز کے احکام، ص ۳۷۴۔

3... براقی الفلاح، كتاب الصلاة، باب الوتر واحكامه، ص ۱۹۔

4... فتاویٰ ہندیہ، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، ۱/۱۱۱۔

5... درمختار وورد المحتان كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب في منكر الوتر... الخ، ۲/۵۳۶۔

کس شخص کو ترکی نماز میں دُعائے قنوت پڑھنا منع ہے؟

جواب جو شخص و ترکی جماعت میں تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو اور امام کے ساتھ قنوت نہ پڑھ سکا وہ اپنی بقیہ نماز میں بھی قنوت نہیں پڑھے گا۔^(۱)

مقتدی کی دُعائے قنوت ختم ہونے سے قبل امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی کیلئے کیا حکم ہے؟

جواب اگر مقتدی دُعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔^(۲)

کیا وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں دُعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟

جواب وتر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہ پڑھے۔^(۳)

تعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مُسْتَحَب ہے؟

جواب تعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں دُعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مُسْتَحَب ہے۔^(۴)

سننیں اور نوافل

سب سننوں میں قوی تر سنّت کون سی ہے؟

① . . . فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الناس فی صلاة الوتر، ۱/۱۱۱۔

② . . . فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الناس فی صلاة الوتر، ۱/۱۱۱۔

③ . . . درمختار و رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب فی القنوت للنازلة . . . الخ، ۲/۵۴۱۔

④ . . . غنیة المنملى، صلاة الوتر، ص ۱۱۲-۱۱۸۔

درمختار و رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب فی منکر الوتر . . . الخ، ۲/۵۳۴، ملقطاً۔

جواب: سنتِ فجر۔ (1)

حدیثِ پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا؟

جواب: حدیثِ پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا۔ (2)

کس صورت میں ظہر کی دو رکعت سنت کو ظہر کی چار رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے؟

جواب: جبکہ ظہر کی چار رکعت سنت کو فرض سے پہلے نہ پڑھ سکا ہو تو اس صورت میں ظہر کی دو سنت کو ظہر کی چار رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ (3)

دن بھر میں کتنی رکعتیں سنتِ مؤکدہ ہیں؟

جواب: جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے پر چودہ رکعتیں اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں میں ہر روز بارہ رکعتیں سنتِ مؤکدہ ہیں: (1) دو رکعت نمازِ فجر سے پہلے (2) چار ظہر سے پہلے، دو بعد (3) دو مغرب کے بعد (4) دو عشا کے بعد اور (5) چار جمعہ سے پہلے، چار بعد۔ (4)

وہ کونسی سنتیں ہیں جن کی مشرؤ عینت کا جان بوجھ کر بلاشبہ انکار کرنا کفر ہے؟

جواب: فجر کی سنتیں۔ (5)

1... بہار شریعت، حصہ 1، 1/663۔

2... مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المعرم، ص 591، حدیث: 1163۔

3... عمدۃ العایۃ، کتاب الصلاة، باب ادراک الفریضۃ، 1/213۔

4... درمختار، کتاب الصلاة، باب التور والنوافل، 2/525۔

5... بہار شریعت، حصہ 1، 1/663۔

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ کسے کہتے ہیں؟

جواب: مغرب کے فرضوں کے بعد جو چھ رکعتیں ادا کی جاتی ہیں انہیں صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ کہتے ہیں۔^(۱)

وہ کونسی نماز ہے جو سواری پر پڑھی جائے تو اس میں قبلہ کو منہ کرنا شرط نہیں؟

جواب: وہ نفل نماز جو بیرونِ شہر (جہاں سے مسافر پر قصر واجب ہوتا ہے) سواری پر ادا کی جائے۔^(۲)

نمازِ چاشت کا وقت کب تک ہے اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟

جواب: نمازِ چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نِصْفُ النَّهَارِ شرعی تک ہے، اس کی کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں۔^(۳)

صَلَاةُ اللَّيْلِ کسے کہتے ہیں؟

جواب: نمازِ عشاء کے بعد جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صَلَاةُ اللَّيْلِ کہتے ہیں۔^(۴)

وہ کون سی نفل نماز ہے جس کے لئے سونا ضروری ہے؟

جواب: وہ نمازِ تہجد ہے کہ عشا کے بعد رات میں سو کر اُٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں۔^(۵)

①... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب فی السنن والنوافل، ۵۷۴/۲۔

②... بہار شریعت، حصہ ۱، ۶۷۱۔

③... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، ۱۱۲/۱، بہار شریعت، حصہ ۱، ۶۷۶، ملقطاً۔

④... بہار شریعت، حصہ ۱، ۶۷۷۔

⑤... بہار شریعت، حصہ ۲، ۶۷۷۔

دن رات کے نوافل میں ایک سلام کے ساتھ کتنی رکعتیں پڑھی جاسکتی ہیں؟

جواب: دن کے نفل میں ایک سلام کے ساتھ چار رکعت سے زیادہ اور رات میں آٹھ

رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے اور افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو چار چار رکعت پر سلام پھیرے۔^(۱)

صلوٰۃ التَّسْبِيح میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟

جواب: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔^(۲)

تراویح

باقاعدہ طور پر تراویح کی جماعت کب سے شروع ہوئی؟

جواب: حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے دورِ خلافت میں۔^(۳)

مولائے کائنات شیر خدا كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ نے اس مبارک کام پر کیا

دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے؟

جواب: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حضرت عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی قبر کو روشن و مُنَوَّر فرمائے جیسے

انہوں نے ہماری مسجدوں کو مُنَوَّر کر دیا۔^(۴)

اُن پہلے حافظِ قرآن کا نام بتائیں جنہوں نے تراویح میں قرآنِ پاک کی

تلاوت فرمائی؟

۱... درمختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ۲/۵۵۰۔

۲... غنیۃ المنعمی، صلاة التَّسْبِيح، ص ۲۳۱۔

۳... بخاری، کتاب صلاة التَّسْبِيح، باب فضل من قام رمضان، ۱/۲۵۸، حدیث: ۲۰۱۰۔

۴... تاریخ ابن عساکر، رقم: ۵۲۰۶، عمر بن الخطاب، ۲۴/۲۸۰۔

جواب: حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ۔^(۱)

تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟

جواب: تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے عہد مبارک میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔^(۲)

نماز تراویح کا حکم بیان کریں؟

جواب: ہر عاقل و بالغ مسلمان پر تراویح پڑھنا سنتِ مؤکدہ ہے اور اسے چھوڑنا جائز نہیں۔^(۳)

تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنے یا سننے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: تراویح میں پورا کلامِ اللہ شریف پڑھنا اور سننا سنتِ مؤکدہ ہے۔^(۴)

تہا نماز تراویح ادا کرنا کیسا؟

جواب: تراویح کی جماعتِ سنتِ مؤکدہ عَلَى الْكِفَايَةِ ہے یعنی اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اِساءات کے مُرتکب ہوئے (یعنی برا کیا) اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔^(۵)

۱... بخاری، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، ۱/۶۵۸، حدیث: ۲۰۱۰۔

۲... معرفة السنن والآثار، کتاب الصلاة، باب قیام رمضان، ۲/۳۰۵، حدیث: ۱۳۵۶۔

۳... درمختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح، ۲/۵۹۶۔

۴... فتاویٰ رضویہ، ۷/۳۵۸۔

۵... ہدایہ، کتاب الصلاة، باب النوافل، فصل فی قیام شہر رمضان، ۱/۷۰۔

کیا بالغ افراد نابالغ امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: جی نہیں! نابالغ کے پیچھے بالغ افراد کی تراویح (بلکہ کوئی بھی نماز) نہیں ہوگی۔^(۱)

تراویح میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ بلند آواز سے پڑھنا چاہئے یا آہستہ؟

جواب: تراویح میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ ایک بار اونچی آواز سے پڑھنا سنت

ہے اور ہر سورۃ کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا مُسْتَحَب ہے۔^(۲)

کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: جی نہیں! تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا مکروہ (تتزیہی) ہے، بلکہ بعض فقہائے

کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کے نزدیک تو (بلا عذر بیٹھ کر) تراویح ہوتی ہی نہیں۔^(۳)

عشاء کے فرضوں سے پہلے تراویح ادا کر لی تو ہو جائے گی؟

جواب: تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ اگر

عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھ لی تو نہ ہوگی۔^(۴)

کیا نماز وتر پڑھنے کے بعد تراویح پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب: عام طور پر تراویح و تروا سے پہلے پڑھی جاتی ہے لیکن اگر کوئی وتر پہلے پڑھ

لے تو تراویح بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔^(۵)

۱... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الخامس، الفصل الثالث، ۸۵/۱۔

۲... بہار شریعت، حصہ ۲، ۱۰۴/۱۹۴۔

۳... درمختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاۃ التراويح، ۲/۶۰۳۔

۴... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع، فصل فی التراويح، ۱/۱۱۵۔

۵... تنویر الابصار و درمختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاۃ التراويح، ۲/۵۹۷۔

تصانمازیں

سوال: کیا قضا نماز کے لئے کوئی وقت مُعَيَّن ہے اور کب قضا نماز پڑھنا جائز نہیں؟
جواب: قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں عمر میں جب پڑھے گا بَرُّی اللّٰہُ ہو جائے گا مگر طلوع و غروب اور زوال کے وقت کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں۔^(۱)

سوال: جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے لئے کیا عید ہے؟

جواب: قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۗ﴾ (ب، ۳۰، الماعون: ۵، ۴) ترجمہ کنز الایمان: ”تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔“ حدیث پاک میں ہے: اس سے مراد وہ ہیں جو نماز کا وقت گزار کر پڑھیں۔^(۲)

سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟

جواب: قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے کیونکہ نماز کا ترک کرنا گناہ ہے اور گناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔^(۳)

سوال: قضا نمازوں میں تاخیر کرنے کا گناہ کیسے معاف ہوگا؟

جواب: قضا نمازوں میں تاخیر کرنے کا گناہ توبہ یا حج مقبول سے معاف ہو جائے گا اور جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کی قضا ضروری ہے۔^(۴)

①... بہار شریعت، حصہ ۴، ۱/۲۰۲۔

②... سنن کبریٰ للبیہقی، کتاب الصلوٰۃ، باب الترسیب فی حفظ... الخ، ۲/۳۰۲، حدیث: ۳۱۶۳۔

③... درمختار و رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب قضا الفوائت، فروع فی قضا الفوائت، ۲/۲۵۰۔

④... رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب قضا الفوائت، ۲/۲۲۶۔

کس اندیشہ کی وجہ سے نماز قضاء کرنا جائز ہے؟

جواب مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے یونہی دائی کو نماز پڑھنے کی وجہ سے بچنے کے مرجانے کا اندیشہ ہے تو نماز قضاء کرنا جائز ہے۔^(۱)

وہ کونسا تندرست مسلمان ہے جس سے نمازیں فوت ہو جائیں تو اُس پر قضاء واجب نہیں؟

جواب دارُ الحرب میں کوئی مسلمان ہوا اور اُسے احکام شریعیہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی اطلاع نہ ہوئی تو جب تک وہاں رہا اُن دنوں کی قضا اُس پر واجب نہیں۔^(۲)

وہ کون سا مریض ہے جس سے نمازیں فوت ہو جائیں تو اس پر قضاء نہیں؟

جواب ایسا مریض کہ اشارہ سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر یہ حالت پورے چھ وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں۔^(۳)

جس پر قضاء نمازیں ہوں کیا وہ انہیں چھوڑ کر سُنن و نوافل پڑھ سکتا ہے؟

جواب قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضائیں پڑھے کہ بِرِئِ الدِّمَّةِ ہو جائے البتہ تراویح اور بارہ رکعتیں سنتِ مُؤکَّدہ کی نہ چھوڑے۔^(۴)

①... بہار شریعت، حصہ ۴، ۱/۴۰۲ ملخصاً۔

②... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ۲/۶۴۷۔

③... بہار شریعت، حصہ ۴، ۱/۴۰۲۔

④... بہار شریعت، حصہ ۴، ۱/۴۰۶۔

سوال: نمازِ فجر قضاء ہونے کا اندیشہ ہو تو بلا ضرورت شریعتہ رات دیر تک جاگنا کیسا؟

جواب: نمازِ فجر قضاء ہونے کا اندیشہ ہو تو بلا ضرورت شریعتہ رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔^(۱)

سوال: ایک دن کی قضاء نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں؟

جواب: ایک دن کی قضاء نمازوں کی 20 رکعتیں ہیں۔ دو رکعتیں فجر کی، چار ظہر، چار

عصر، تین مغرب، چار عشاء کی اور تین وتر۔^(۲)

سوال: جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں وہ قضائے عمری کیسے پڑھے؟

جواب: جس نے کبھی نمازیں نہ پڑھی ہوں اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا

چاہتا ہے وہ جب سے بالغ ہوا ہے اُس وقت سے حساب لگائے اور تاریخِ بلوغ بھی

نہیں معلوم تو احتیاط اسی میں ہے کہ عورت نو سال کی عمر سے اور مرد بارہ سال کی

عمر سے نمازوں کا حساب لگائے۔^(۳)

سوال: جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں وہ کیا کرے؟

جواب: جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اُن کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے مگر بال

بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے لہذا

کاروبار بھی کرتا ہے اور فرصت کا جو وقت ملے اُس میں قضا پڑھتا ہے یہاں

تک کہ پوری ہو جائیں۔^(۴)

①... رد المحتار، کتاب الصلاة، مطلب فی طلوع الشمس من مغربها، ۲/۳۳۔

②... نماز کے احکام، ص ۳۳۸۔

③... فتاویٰ رضویہ، ۸/۱۵۲، ماخوذاً۔

④... درمختار و رد المحتار، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ۲/۶۴۶۔ نماز کے احکام، ص ۳۳۵۔

سجدہ تلاوت

آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ جنت نشان ہے: جب جب آدمی

آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے: ہائے میری بربادی! ابنِ آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اس نے سجدہ کیا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا میرے لئے دوزخ ہے۔⁽¹⁾

قرآنِ پاک میں آیاتِ سجدہ کتنی ہیں؟

جواب: سجدہ کی چودہ آیتیں ہیں۔⁽²⁾

سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟

جواب: کھڑا ہو کر اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بار سُبْحٰنَ رَبِّيْ

الاعلیٰ کہے پھر اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، سجدہ تلاوت کے لیے اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ اس میں تشہُّد ہے نہ سلام۔⁽³⁾

کیا سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے؟

جواب: جی ہاں جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں ان سے سجدہ بھی فاسد ہو جائے گا۔⁽⁴⁾

1... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة، ص ۵۶، حدیث: ۸۱-

2... ہدایہ، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، الجزء الاول، ص ۷۸-

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ۱۳۲/۱-۱۳۵-

درمختار، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ۲/۷۰۰-۷۰۲، بملقطاً-

4... درمختار، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ۲/۶۹۹-

سوال سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے؟

جواب آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔^(۱)

کیا آیت سجدہ لکھنے یا دیکھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے؟

جواب نہیں آیت سجدہ لکھنے یا دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔^(۲)

اگر آیت سجدہ سننے کی نیت نہ تھی بلکہ بلا قصد سن لی تو کیا حکم ہوگا؟

جواب سننے والے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ بالْقصد سنی ہو، بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔^(۳)

اگر آیت سجدہ کا ترجمہ سنا تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟

جواب کسی بھی زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔^(۴)

اگر نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھی تو کیا فوراً سجدہ کر لینا واجب ہے؟

جواب آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے۔ البتہ وضو ہو تو (بلا عذر) تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔^(۵)

۱... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ۱/۱۳۲۔

۲... غنیۃ المثلی، سجدة التلاوة، ص ۵۰۰۔

۳... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ۱/۱۳۲۔

۴... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ۱/۱۳۲۔

۵... درمختار، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ۲/۷۰۳۔

کوئی شخص اپنی نماز پڑھتے ہوئے آیت سجدہ سن لے تو کیا حکم ہے؟
جواب جو شخص نماز میں نہیں اُس نے آیت سجدہ پڑھی اور نمازی نے سن لی تو نماز کے بعد سجدہ کرے اور اگر نماز ہی میں سجدہ کر لیا تو کافی نہ ہوگا بعد نماز پھر کرنا ہوگا۔⁽¹⁾

اگر کسی نابالغ بچے سے آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔⁽²⁾
 پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا کیسا ہے؟
جواب مکروہ تحریمی ہے۔⁽³⁾

مسافر کی نماز

شرعی سفر کی مسافت کیا ہے؟
جواب شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو ساڑھے 57 میل (تقریباً 92 کلومیٹر) کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت (ٹھہرنے کی جگہ، وطن) مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔⁽⁴⁾

کیا سفر کی نیت کرتے ہی بندہ شرعاً مسافر بن جائے گا؟
جواب محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا بلکہ مسافر کا حکم اُس وقت ہے کہ بستی کی

1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، ۱۳۳/۱۔

2... درمختار، کتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ۲/۴۰۱۔

3... المبسوط، کتاب الصلاة، باب السجدة، ۲/۵۔

4... فتاویٰ رضویہ، ۸/۲۷۰ ملخصاً۔

(1) آبادی سے باہر ہو جائے، شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے۔

سوال: نمازِ قصر کسے کہتے ہیں؟

جواب: سفر میں چار فرضوں کو دوپڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ (2)

سوال: کیا مسافر کے لئے قصر کرنا ضروری ہے؟

جواب: جی ہاں مسافر پر نماز میں قصر کرنا واجب ہے۔ (3)

سوال: کیا مسافر سنتیں بھی قصر کر کے پڑھے گا؟

جواب: سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں گی البتہ خوف اور رازوری

(گھبراہٹ) کی حالت میں معاف ہیں اور امن کی حالت میں پڑھی جائیں۔ (4)

سوال: اگر کوئی شخص تین دن کی راہ پر جا رہا ہے لیکن اس کا دورانِ مسافت دو دن کی

راہ پر کسی کام کے حوالے سے رکنے کا ارادہ ہے تو کیا وہ بھی نمازِ قصر پڑھے گا؟

جواب: جی نہیں وہ مسافر نہیں ہو نماز پوری پڑھے گا، قصر نماز کے لئے اس مسافت کا

تین دن پورا اور راہ کا مُتَّصِل (ملا ہوا، لگاتار) ہونا ضروری ہے۔ (5)

سوال: وطنِ اصلی کسے کہتے ہیں؟

جواب: وہ جگہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا

1... درمختار وورد المختار، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ۲/۲۲۷۔

2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ۱/۱۳۹ مفہوم۔

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ۱/۱۳۹۔

4... بہار شریعت، حصہ ۱، ۴۱/۴۲۔

5... فتاویٰ رضویہ، ۸/۲۷۰ ملخصاً۔

وہاں سکونت کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔^(۱)

نیتِ اقامت صحیح ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟

جواب: نیتِ اقامت صحیح ہونے کے لیے چھ شرطیں ہیں: (۱) چلنا ترک کرے اگر چلنے

کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں۔ (۲) وہ جگہ اقامت کی صلاحیت

رکھتی ہو جنگل یا دریا غیر آباد ٹاپو (جزیرہ، خشکی کے ٹکڑے) میں اقامت کی نیت کی

مقیم نہ ہو۔ (۳) پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت ہو اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے

مقیم نہ ہو گا۔ (۴) یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو اگر دو موضوعوں میں پندرہ

دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، مثلاً ایک میں دس دن دوسرے میں پانچ دن کا تو مقیم نہ

ہو گا۔ (۵) اپنا ارادہ مستقل رکھتا یعنی کسی کا تابع نہ ہو۔ (۶) اس کی حالت اس کے

ارادہ کے منافی نہ ہو۔^(۲)

وطنِ اقامت کی تعریف بتائیں؟

جواب: وطنِ اقامت وہ جگہ جہاں مسافر نے ۱۵ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ

کیا ہو۔^(۳)

مسافر کسی کام کے لئے یا ساتھیوں کے انتظار میں دو چار روز یا تیرہ چودہ دن کی

نیت سے ٹھہر اور یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جائے گا اگر اس صورت

میں ”آج کل آج کل کرتے“ زیادہ دن گزر جائیں تو نماز قصر پڑھے یا پوری؟

۱... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، ۱/۱۴۲۔ بہار شریعت، حصہ ۴، ۱/۵۰۔

۲... بہار شریعت، حصہ ۴، ۱/۴۴۔

۳... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، ۱/۱۴۲۔

جواب اس صورت میں اگر آج کل آج کل کرتے کئی برس گزر جائیں جب بھی مسافر ہی ہے، نماز قصر پڑھے۔^(۱)

سوال مسافر نے چار رکعت کی نیت کر لی تو اب کیا حکم ہو گا؟

جواب مسافر نے قصر کی بجائے چار رکعت فرض کی نیت باندھ لی پھر یاد آنے پر دوپہر سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی۔^(۲)

سوال مسافر کو کس صورت میں چار رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے؟

جواب مسافر جبکہ مقیم کی اقتدا کرے تو اس کو چار رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے۔^(۳)

جمعہ

سوال وہ کونسا دن ہے جس کو بروز قیامت دُہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟

جواب جمعہ کا دن۔^(۴)

سوال جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لئے کیا وعید ہے؟

جواب تَرْوَرِ كَانَاتِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَفَرَمَايَا: لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔^(۵)

①... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ۱/۱۳۹۔

②... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، ۱/۱۳۹ ماخوذاً۔

③... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، وما يتصل بذلك... الخ، ۱/۱۴۲۔

④... درمستور، پ ۲۸، الجمعة، تحت الآية: ۹، ۸/۱۵۶۔

⑤... مسلم، کتاب الجمعة، باب التغلیظ فی ترک الجمعة، ص ۲۳۰، حدیث: ۸۶۵۔

یوم جمعہ میں وہ مختصر گھڑی کونسی ہے جس میں بھلائی مانگنے والے مسلمان کو ضرور دیا جاتا ہے۔

جواب اس بارے میں اکابرِ مُحَقِّقین علماء اور کثیر ائمہ کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے نزدیک راجح اور قوی قول دو ہیں: (1) وہ روزِ جمعہ کی آخری ساعت یعنی غروبِ آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت ہے۔ (2) جب امام منبر پر بیٹھے اس وقت سے فرضِ جمعہ کے سلام تک۔ البتہ امام کے منبر پر آنے کے بعد سے فرضِ جمعہ کا سلام پھیرنے تک کسی بھی قسم کا کلام منع ہونے کی وجہ سے دعا فقط دل سے کی جاسکتی ہے۔⁽¹⁾

دورانِ خطبہ کھانے پینے یا بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب خطبہ کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سُبْحَانَ اللهِ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔⁽²⁾

خطبہ کی آواز نہ پہنچتی ہو تو کیا حکم ہے؟

جواب جس تک خطبہ کی آواز نہ پہنچتی ہو وہ بھی خاموش رہے۔⁽³⁾

کیا خاموشی کے علاوہ خطبہ سننے کے کچھ اور بھی آداب ہیں؟

جواب خطبہ کے وقت صرف زبان سے خاموشی کافی نہیں بلکہ سکون و اطمینان سے بیٹھنا بھی ضروری ہے، کنکر پتھروں سے کھیلنا بھی ممنوع ہے۔ علماء فرماتے ہیں

1... فضائل دعا، ص 116، 119، طبعک۔

2... درمختار کتاب الصلاة، باب الجمعة، 3/39۔

3... تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، 1/30۔

کہ خطبہ کے وقت دامن یا پتکھے سے ہوا کرنا بھی منع ہے اگرچہ گرمی ہو، اس وقت ہمہ تن خطبہ کی طرف مُتَوَجِّہ ہونا ضروری ہے۔^(۱)

سوال: پہلا خطبہ ہاتھ باندھ کر اور دوسرا زانوؤں پر ہاتھ رکھ کر سننے کا کیا اجر ہے؟

جواب: بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ دو زانو بیٹھ کر خطبہ سُنئے، پہلے خطبہ میں ہاتھ باندھے اور دوسرے میں زانوؤں پر ہاتھ رکھے تو اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ دو رکعت کا ثواب ملے گا۔^(۲)

سوال: جمعہ کے دن مسجد آنے والے کن افراد کا نام فرشتے نہیں لکھتے؟

جواب: جب جمعہ کا دن آتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جلدی آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے منبر پر آتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر پلیٹ کر انسانوں کے ساتھ خطبہ سننے لگتے ہیں، اب جو اس وقت آئے گا نہ اس کا نام ان کے دفتر میں لکھا جائے گا نہ اسے جلد آنے کا ثواب ملے گا۔^(۳)

سوال: حضور نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کتنے جمعہ ادا فرمائے؟

جواب: حضور نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تقریباً پانچ سو جمعے پڑھے ہیں کیونکہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا جس کے بعد آپ کی ظاہری زندگی مبارک دس

①... مرآة المناجیح، ۲/۳۳۵۔

②... مرآة المناجیح، ۲/۳۳۸۔

③... بخاری، کتاب الجمعة، باب الاستماع الى الخطبة، ۱/۳۱۹، حدیث: ۹۲۹، مرآة المناجیح، ۲/۳۳۵۔

سال رہی، اس عرصہ میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔^(۱)

سوال: وہ کونسی نماز ہے جسے ادا کرنا فرضِ عین ہے مگر اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟

جواب: وہ نماز جمعہ ہے کہ جس کا پڑھنا فرضِ عین ہے لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس

کی قضا پڑھنا حرام ہے بلکہ اُس کی قضا کی جگہ وہ ظہر پڑھے گا۔^(۲)

سوال: کیا سستی کے سبب جمعہ میں دیر سے پہنچنے والے کا جمعہ ہو جائے گا؟

جواب: جو جمعہ میں سستی سے آئے اور دیر میں پہنچے اگرچہ اس کا جمعہ تو ہو جائے گا مگر

وہ ثواب نہ ملے گا جو جلدی پہنچنے والے کو ملتا ہے۔^(۳)

سوال: جمعہ کیلئے الگ جوڑا رکھنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: مُستحب ہے کہ جمعہ کا جوڑا الگ رکھے جو بوقتِ نماز پہن لیا کرے اور بعد میں اتار

دیا کرے۔ امام زین العابدین تو نماز پنجگانہ کے لئے الگ جوڑا رکھتے تھے۔^(۴)

مَدِين

سوال: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کن چیزوں کے شکرانے کے طور پر منائی جاتی ہیں؟

جواب: عید الفطر عبادتِ رمضان کی توفیق ملنے کے شکرِ یے کی ہے اور بقر عید حضرت

ابراہیم و اسماعیل عَلَيْهِمَا السَّلَام کی کامیابی کے شکرِ یے میں۔^(۵)

①... اشعة المعاني، كتاب الصلاة، باب الخطبة والصلاة، الفصل الثالث، ۱/۲۳۱۔

②... الاشياء والنظائر، الفن الرابع، كتاب الصلاة، ص ۳۲۲۔

③... مرآة الناجح، ۲/۳۳۸۔

④... مرآة الناجح، ۲/۳۳۷۔

⑤... مرآة الناجح، ۲/۳۵۵، ملقطاً۔

پہلی نماز عید کب ادا کی گئی؟

جواب: سن ۲ ہجری میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اسی سال نبی کریم صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نماز عید پڑھی پھر بقر عید۔^(۱)

عیدین کی نماز کا حکم بیان کریں؟

جواب: عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہیں پر جن پر جمعہ واجب^(۲) ہے۔^(۳)

نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟

جواب: نماز عید میں چھ تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں۔^(۴)

نماز عید میں زائد تکبیریں کس وقت کہی جاتی ہیں؟

جواب: زائد تکبیریں ہر رکعت میں تین تین ہیں، پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اور قراءت کے بعد

۱... مرآة المناجیح، ۲/۳۵۵ طصا۔

۲... جمعہ واجب ہونے کے لیے گیارہ شرطیں ہیں: (۱) شہر میں مقیم ہونا (۲) صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جاسکتا ہو یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہو گا۔ شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے۔ (۳) آزاد ہونا، غلام پر جمعہ فرض نہیں اور اس کا آقا منع کر سکتا ہے (۴) مرد ہونا (۵) بالغ ہونا (۶) عاقل ہونا۔ یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے وجوب میں عقل و بلوغ شرط ہے (۷) انگھیارا ہونا (۸) چلنے پر قادر ہونا (۹) قید میں نہ ہونا (۱۰) بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا (۱۱) بینہ یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔ (بہار شریعت،

حصہ ۳، ۱/۴۴۰-۴۴۲)

۳... درمختار، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۳/۵۱۔

۴... درمختار، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۳/۶۱۔

کہی جاتی ہیں۔^(۱)

﴿جواب﴾ نماز عید میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ کانوں تک کب اٹھائے جاتے ہیں؟

﴿جواب﴾ نماز عید میں کہی جانے والی چھ زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔^(۲)

﴿جواب﴾ نماز عید میں امام کو رکوع میں پانے والا زائد تکبیریں کیسے کہے گا؟

﴿جواب﴾ اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں

پالے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے ورنہ اللہ اکبر کہہ

کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔^(۳)

﴿جواب﴾ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا چاہیے یا نہیں؟

﴿جواب﴾ عید الفطر میں نماز سے پہلے چند کھجوریں طاق عدد میں تین، پانچ، سات یا کوئی

بھی میٹھی شے کھالینا مُسْتَحَبّ جبکہ عید الاضحیٰ (بقر عید) میں نماز سے پہلے کچھ نہ

کھانا مُسْتَحَبّ ہے اگرچہ قربانی نہ کرے۔^(۴) جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے

لئے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے جب تک

نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔^(۵)

①... درمختار وورد المحتار، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۶۱/۳-۶۳، ملقطاً۔

②... درمختار، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۶۵/۳، مفصلاً۔

③... وورد المحتار، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۶۲/۳۔

④... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب السابع عشر فی صلاة العیدین، ۱/۱۵۰۔

⑤... ترمذی، کتاب العیدین، باب ما جاء فی الاکل یوم الفطر قبل الخروج، ۲/۷۰، حدیث: ۵۴۲۔

قربانی سے پہلے حجامت بنوانے اور ناخن ترشوانے کا کیا حکم ہے؟

جواب: قربانی کرنی ہو تو مُسْتَحَب یہ ہے کہ پہلی سے دسویں ذی الحجہ تک نہ حجامت بنوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔^(۱)

تکبیر تشریق اور اس کا حکم بیان کریں؟

جواب: نویں ذی الحجہ کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک پانچوں وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعتِ اولیٰ کے ساتھ ادا کی گئیں اُن میں (سلام پھیرنے کے بعد فوراً) ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب اور تین بار افضل۔^(۲) تکبیر تشریق یہ ہے:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لِلَّهِ الْحَمْدُ۔^(۳)

عید کے دن کی مُسْتَحَب چیزیں کیا ہیں؟

جواب: غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عید گاہ جلد چلے جانا، عید گاہ پیدل جانا وغیرہ۔^(۴)

نمازِ عید کے بعد مُصَافِحہ و مُعَانِقَہ کرنا کیسا ہے؟

جواب: صدرُ الشَّرِيعَہ مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: بعد نمازِ عید مُصَافِحہ و مُعَانِقَہ کرنا جیسا عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے کہ اس میں اظہارِ مَسْرَّت ہے۔^(۵)

①... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب العیدین، مطلب فی ازالة الشعر... الخ، ۳/۷۷۔

②... تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، ۱/۵۴۴-۵۴۵، ملتقط۔

③... تنویر الابصار، کتاب الصلاة، باب العیدین، ۳/۷۷۔

④... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب السابع عشر فی صلاة العیدین، ۱/۱۴۹۔

⑤... بہارِ شریعت، حصہ ۴، ۱/۸۴۔

بیماری، عیادت اور موت

حدیث پاک میں بیمار اور بیماری کی کیا فضیلت آئی ہے؟

جواب: حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت جبکہ منافق کے بیمار ہو کر اچھا ہونے کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا تو نہ اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا، نہ یہ کہ کیوں کھولا؟ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)! بیماری کیا چیز ہے، میں تو کبھی بیمار نہ ہوا؟ فرمایا: ہمارے پاس سے اٹھ جا کہ تو ہم میں سے نہیں۔^(۱)

حقیقی بیماری کونسی ہے؟

جواب: صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى فرماتے ہیں: حقیقی بیماری امراضِ روحانیہ ہیں کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض سمجھنا چاہئے۔^(۲)

عیادت کے وقت مریض سے کیا کلمات کہنا سنت ہے؟

جواب: لَا بَأْسَ طَهُورًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔^(۳)

۱... ابو داؤد، کتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب، ۳/۲۴۵، حدیث: ۳۰۸۹۔

۲... بہار شریعت، حصہ ۱، ۲/۹۹۔

۳... بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ۲/۵۰۵، حدیث: ۳۶۱۶۔

مريض کے پاس بیٹھ کر کس طرح کی بات کرنی چاہیے؟

جواب: حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب مریض کے پاس جاؤ تو اُسے زندگی کی اُمید دلاؤ، یہ تقدیر تو نہیں بدلے گا مگر اُس کے دل کو خوش کرے گا۔“ (1)

مريض کی دعا کس کی دعا کے مانند ہے؟

جواب: مریض کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی مانند کہا گیا ہے۔ (2)

مريض کی عیادت کرنے والے کو آسمان سے کیا نداد کی جاتی ہے؟

جواب: حدیث شریف میں ہے: جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے مریض کی عیادت یا اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے آسمان سے مُنادی ندا کرتا ہے: تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا اور جنت کی ایک منزل کو تو نے ٹھکانا بنایا۔ (3)

مصیبتوں سے تنگ آکر موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟

جواب: حضور نبی کریم، رُووفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی مصیبت و تکلیف پہنچنے پر موت کی آرزو نہ کرے اگر ناچار کرنی ہی ہے تو یوں کہے: ”الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہو اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔“ (4)

1... ترمذی، ابواب الطب، باب ۴، ۳۵/۲، حدیث: ۲۰۹۴۔

2... ابن ماجہ، ابواب ماجاء فی الجنائن، باب ماجاء فی عیادة المریض، ۱۹۱/۲، حدیث: ۱۴۴۱۔

3... ترمذی، ابواب الصبر والصلوة، باب ماجاء فی زیارة الاخوان، ۴۰۵/۳، حدیث: ۲۰۱۵۔

4... بخاری، کتاب المرضی، باب تمنی المریض الموت، ۱۳/۴، حدیث: ۵۶۷۱۔

کیا معمولی بیماری میں بھی بیمار پُرسی کی جائے؟

جواب: معمولی بیماری میں بھی بیمار پُرسی کرنا سنت ہے جیسے آنکھ یا کان یا ڈاڑھ کا درد کہ یہ اگرچہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہیں۔^(۱)

تلقین کس وقت کرنی چاہئے، نیز تلقین کرنے کا طریقہ بیان کریں؟

جواب: جان کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو اس وقت تلقین کریں اور مریض کے پاس اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ بَلَدٌ آواز سے پڑھیں مگر اس کو پڑھنے کا نہ کہیں۔^(۲)

نزع میں سختی دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟

جواب: نزع میں سختی دیکھیں تو سورہ لیس اور سورہ زعد پڑھیں۔^(۳)

موت کی علامات پائے جانے پر مریض کو کیسے لٹایا جائے؟

جواب: جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ دہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں اور یہ بھی جائز ہے کہ چپٹ لٹائیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلہ کو منہ ہو جائے گا مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں اور قبلہ کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اُس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔^(۴)

①... مرآة المناجیح، ۲/۳۱۵۔

②... جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلاۃ، باب الجنائز، ص ۱۳۰۔

③... بہار شریعت، حصہ ۴، ۱/۸۰۸۔

④... درمختار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنائز، ۳/۹۱۔

کس چیز کو حدیث پاک میں قاطع لذات کہا گیا ہے؟

جواب: موت کو قاطع لذات کہا گیا ہے، حدیث پاک میں ہے: لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔^(۱)

میت کا غسل اور کفن

میت کو نہلانے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: پیارے آقا صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔^(۲)

میت کے غسل و کفن میں جلدی کرنی چاہیے یا نہیں؟

جواب: جی ہاں، غسل و کفن و دفن میں جلدی چاہیے کہ حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔^(۳)

میت کو غسل دیتے ہوئے کتنی بار پانی بہانا ضروری ہے؟

جواب: ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ بہانا سنت ہے۔^(۴)

اگر میت کو غسل دینے والا جنابت کی حالت میں ہو تو غسل ادا ہو جائے گا؟

① ... ترمذی، ابواب الزہد، باب ماجاء فی ذکر الموت، ۱۳۸/۴، حدیث: ۲۳۱۲۔

② ... ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی غسل المیت، ۲۰۱/۲، حدیث: ۱۴۶۲۔

③ ... بہار شریعت، حصہ ۱۰۴/۱، ۸۰۶، جوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۳۱۔

④ ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز الفصل الثانی فی الغسل، ۱/۵۸۔

جواب: جی ہاں مگر ایسی حالت میں غسل دینا مکروہ ہے۔ (1)

مرد اور عورت کی کفنی میں کیا فرق ہے؟

جواب: مرد کی کفنی مونڈھے پر چیری جاتی ہے جبکہ عورت کے لیے سینہ کی طرف سے۔ (2)

اگر اتنی بارش برسے کہ میت کے سارے بدن پر پانی بہہ جائے تو کیا پھر بھی غسل دینا ضروری ہے؟

جواب: میت کے سارے بدن پر پانی بہہ جانے سے غسل تو ہو جائے گا مگر زندوں پر اسے غسل دینا واجب ہی رہے گا لہذا غسل دینا ضروری ہے۔ (3)

میت کو کفن پہنانے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: سَرَوْر کائنات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جس نے میت کو کفنا یا (یعنی کفن پہنایا) تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ اسے سُنْدُس کا لباس (جنت کا انتہائی نفیس ریشمی لباس) پہنائے گا۔ (4)

مرد و عورت کے لئے کفن سنت کیا ہے؟

جواب: مرد کے لئے کفن تین کپڑے ہیں: (1) لفافہ (2) ازار (3) قمیص۔ عورت کے لئے کفن سنت پانچ کپڑے ہیں: (1) لفافہ (2) ازار (3) قمیص (4) سینہ بند (5) اوڑھنی۔ (5)

1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز الفصل الثانی فی الغسل، ۱/۱۵۹۔

2... بہار شریعت، حصہ ۱۴، ۱۸۸۔

3... درمختار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ۳/۱۰۹، ۱۱۰۔

4... مستدرک، کتاب الجنائز فضیلة صفوف فی صلاة الجنائز، ۱/۶۹۰، حدیث: ۱۳۸۰۔

6... درمختار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ۳/۱۱۲، ۱۱۳۔

بچوں کو کونسا کفن دیا جائے گا؟

جواب جو نابالغ حدِ شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیئے جاتے ہیں اسے بھی دیئے جائیں اور اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا (ازار) اور چھوٹی لڑکی کو دو کپڑے (لفافہ اور ازار) دے سکتے ہیں اور لڑکے کو بھی دو کپڑے (لفافہ اور ازار) دیئے جائیں تو اچھا ہے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ ایک دن کا بچہ ہو۔^(۱)

میت کو عام سا کفن دینا چاہیے یا قیمتی؟

جواب کفن اچھا ہونا چاہئے یعنی مرد وعیندین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہئے۔^(۲) حدیثِ پاک میں ہے: ”مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ قبروں میں باہم ملاقات کرتے ہیں۔“^(۳)

میت کو غسل کیسے شخص سے دلویا جائے؟

جواب امانت دار اور پرہیزگار شخص سے غسل دلویا جائے تاکہ وہ دورانِ غسل عیب والی بات دیکھے تو اسے چھپائے اور بھلائی والی بات دیکھے تو ظاہر کرے۔ بہتر یہ ہے کہ نہ لانے والا میت کا قریبی رشتے دار ہو۔^(۴)

①... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ۱۱۷/۳۔

②... درمختار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ۱۱۳/۳۔

③... مسلم، کتاب الجنائز، باب فی تحسین کفن الميت، ص ۷۰، حدیث: ۹۲۳،

الکامل لابن عدی، الرقم: ۷۳۲، سلیمان بن ارقم، ۲۳۷/۴۔

④... ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب العادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثانی فی الغسل، ۱۵۹/۱۔

میت کا کفن کس کے مال سے خرید جائے؟

جواب: میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہئے۔ میت نے مال نہ

چھوڑا تو کفن اس کے ذمہ ہے جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا اور اگر کوئی ایسا نہیں یا وہ نادار ہے تو وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے۔ (1)

نمازِ جنازہ

نمازِ جنازہ فرض ہے یا واجب یا پھر سنت؟

جواب: نمازِ جنازہ فرضِ کفایہ ہے۔ (2)

نمازِ جنازہ میں کتنے رکن اور کتنی سنتیں ہیں؟

جواب: نمازِ جنازہ میں دو رکن ہیں: (1) چار تکبیریں اور (2) قیام۔ اور قیام میں تین سنتِ مؤکدہ ہیں: (1) ثنا (2) درودِ پاک اور (3) میت کے لیے دعا۔ (3)

کیا غائبانہ نمازِ جنازہ ہو سکتی ہے؟

جواب: میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائبانہ نمازِ جنازہ نہیں ہو سکتی۔ (4)

نمازِ جنازہ کا امام کہاں کھڑا ہو؟

جواب: مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ (5)

1... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۹۸/۱، ۸۲۰، درمختار کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ۱۱۴/۳۔

2... درمختار کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ۱۲۰/۳۔

3... درمختار کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ۱۲۲/۳۔

4... درمختار کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ۱۲۳/۳۔

5... درمختار کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ۱۳۴/۳۔

کس نماز کی آخری صف سب سے افضل ہے؟

جواب: نمازِ جنازہ کی آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ (1)

جنازے میں کتنی صفیں ہونی چاہیں؟

جواب: بہتر یہ ہے کہ جنازے میں تین صفیں ہوں کہ حدیثِ پاک میں ہے: جس کی

نماز (جنازہ) تین صفوں نے پڑھی اُس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ (2)

اگر جنازہ پڑھنے والے افراد بہت ہی کم ہوں تو تین صفیں کیسے بنائیں؟

جواب: اگر کل سات آدمی ہوں تو ایک امام بن جائے اب پہلی صف میں تین کھڑے

ہو جائیں دوسری میں دو اور تیسری میں ایک۔ (3)

جنازے کو کندھا دینے کا کیا ثواب ہے؟

جواب: حدیثِ پاک میں ہے: جو جنازے کو چالیس قدم لے کر چلے اُس کے چالیس

کبیرہ گناہ مٹا دیئے جائیں گے۔ (4)

نمازِ جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟

جواب: جنازہ کی نماز کے بعد دعا کرنا رسولِ اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور حضراتِ

صحابہ کرام رَضَوُا اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِم اَجْمَعِیْن کی سنت ہے۔ (5)

1... درمختار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنان، ۱۳۱/۳۔

2... ترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی الصلوة علی المیت... الخ، ۲/۲، حدیث: ۱۰۳۰۔

3... غنیة المصلی، فصل فی الجنائز، ص ۵۸۸۔

4... معجم اوسط، ۲۵۹/۲، حدیث: ۵۹۲۰۔

5... دلائل النبوة، باب ماجاء فی غزوة مؤتہ... الخ، ۳۶۹/۳،

سنن کبریٰ للبیہقی، کتاب الجنائز، باب الرجل تقوته الصلاة... الخ، ۴/۲، حدیث: ۶۹۹۶۔

سوال: نمازِ جنازہ کی ابتدا کب ہوئی؟

جواب: حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کے دورِ مبارک سے ہوئی۔^(۱)

سوال: جنتی شخص کا جنازہ لے کر چلنے والوں پر کیا انعام فرمایا جاتا ہے؟

جواب: حدیثِ پاک میں ہے کہ جب کوئی جنتی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا جنازہ اٹھانے، اُس کے پیچھے چلنے اور اُس کی نمازِ جنازہ ادا کرنے والوں کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔^(۲)

سوال: حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جنازہ دیکھ کر کیا کہا کرتے تھے؟

جواب: آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ یہ پڑھا کرتے تھے: ”سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ“ یعنی پاک ہے وہ ذات جسے موت نہیں۔“^(۳)

قبر و دفن

سوال: میت کو دفن کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: میت کو دفن کرنا فرضِ کفایہ ہے۔^(۴)

سوال: تدفین میں شرکت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جو مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان سے بہ نیتِ ثواب جائے اور اس کے ساتھ ہی رہے

①... فتاویٰ رضویہ، ۳۷۵/۵۔

②... فردوس الأخبان ۱/۱۶۸، حدیث: ۱۱۱۵۔

③... احیاء العلوم، کتاب ذکر الموت وما بعدہ، الباب الثامن، ۲۶۶/۵۔

④... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، ۱/۱۶۵۔

حتیٰ کہ اس پر نماز پڑھ لے اور اس کے دفن سے فارغ ہو جائے تو وہ ثواب کے دو قیراط (حصے) لے کر لوٹے گا ہر حصہ اُحد کے برابر۔^(۱)

قبر کی کتنی اور کون کونسی قسمیں ہیں؟

جواب: بناوٹ کے اعتبار سے قبر کی دو قسمیں ہیں: (۱) لحد (یعنی بغلی قبر) (۲) شق (یعنی صندوق)۔^(۲)

لحد کیسے بنائی جاتی ہے؟

جواب: صندوق نما گڑھا کھود کر اس میں قبلہ کی طرف دیوار میں اتنی جگہ کھودیں جس میں میت کو با آسانی رکھا جاسکے۔^(۳)

”شق“ کیسے بنائی جاتی ہے؟

جواب: یہ صندوق نما گڑھا کھود کر تیار کی جاتی ہے اور عام طور پر ہمارے یہاں یہی رائج ہے، لحد سنت ہے اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔^(۴)

قبر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟

جواب: قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زائد ہو اور چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر ہو اور مُتَوَسِّط (درمیانی)

۱... بخاری، کتاب الایمان، باب اتباع الجنائز من الایمان، ۱/۲۹، حدیث: ۴۷۔

۲... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، ۱/۲۵۔

۳... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، ۱/۲۵۔

۴... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، ۱/۲۵۔

درجہ یہ کہ سینہ تک ہو۔^(۱) اس سے مراد یہ کہ کُدر یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔^(۲)

کیا قبر کے اندرونی حصے میں اینٹیں لگائی جاسکتی ہیں؟

جواب قبر کے اندر کی دیواریں وغیرہ کچی مٹی کی ہوں، آگ کی پکی ہوئی اینٹیں استعمال نہ کی جائیں۔^(۳) اگر اندر میں پکی ہوئی اینٹ کی دیواریں ضروری ہوں تو پھر اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لپ دیا جائے۔^(۴)

کیا قبر میں چٹائی وغیرہ بچھا سکتے ہیں؟

جواب قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا جائز نہیں ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔^(۵) میت کو قبر میں لٹانے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب میت کو سیدھی کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو جائے۔^(۶)

کیا میت کو قبر میں لٹانے کے بعد کفن کی بندش کھول سکتے ہیں؟

جواب جی ہاں! قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں

۱... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: فی دفن الميت، ۱/۲۴۳۔

۲... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۸۲۳۔

۳... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، ۱/۲۶۶۔

۴... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۸۲۳ مفہوماً۔

۵... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: فی دفن الميت، ۱/۲۴۳۔

۶... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، ۱/۲۶۶۔

اور اگر بندش نہیں کھولی تو بھی حَرَج نہیں۔ (1)

قبر اوپر سے کس شکل کی بنائی جائے؟

جواب: قبر اونٹ کی کوہان کی طرح ڈھال والی بنائیں چوکھی نہ بنائیں۔ (2)

قبر پر پانی چھڑکنا کیسا ہے؟

جواب: بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا مسنون ہے۔ (3) اس کے علاوہ بعد میں پودے وغیرہ

کو پانی دینے کی غرض سے چھڑکیں تو جائز ہے۔ (4) بعض لوگ اپنے عزیز کی

قبر پر بلا مقصد صحیح محض رسمی طور پر پانی چھڑکتے ہیں یہ ناجائز اور اسراف ہے۔ (5)

زکوٰۃ

زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟

جواب: زکوٰۃ سے مراد شریعت کے مقرر کردہ مال کے ایک حصہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے

کسی مسلمان فقیر (مستحق) کو مالک بنا دینا ہے جو ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد

گروہ غلام ہو اور مالک بنانے والا اُس مال سے اپنا نفع بالکل جدا کر لے۔ (6)

زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

1... جوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ۱۴۰۔

2... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب: فی دفن الميت، ۱۶۹/۳۔

3... فتاویٰ رضویہ، ۹/۳۷۳۔

4... مدنی وصیت نامہ، ص ۱۵۔

5... فتاویٰ رضویہ، ۹/۳۷۳ مفہوماً۔

6... تنویر الابصار، کتاب الزکاة، ۳/۲۰۳-۲۰۶۔

جواب ﴿﴾ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہے۔^(۱)

﴿﴾ قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید آئی ہے؟

جواب ﴿﴾ ایسوں کو قیامت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالَّذِينَ

يَكْفُرُونَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُوا نَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَبَسُوا لَهَا بَعْدَ آيِ

الْيَمِّ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَ

ظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مِمَّا كَفَرْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ قُلُوبُكُمْ فَأَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۸﴾﴾

(پ. ۱، النوبۃ: ۳۴، ۳۵) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور

اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس

دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور

کروٹیں اور پیٹھیں یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لئے جوڑ کر رکھا تھا اب چکھو مزہ اس

جوڑنے کا۔

﴿﴾ احادیثِ کریمہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فوائد بیان ہوئے ہیں؟

جواب ﴿﴾ احادیثِ مبارکہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعض فوائد یہ بیان ہوئے ہیں: (۱)

زکوٰۃ دینا بندے کے اسلام کی تکمیل ہے۔^(۲) (۲) زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی

حفاظت ہوتی ہے۔^(۳) (۳) زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔^(۴)

①... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الزکوٰۃ، الباب الاول، ۱/۷۰، ملقط۔

②... الترغیب والترہیب، الترغیب فی اداء الزکوٰۃ و تادیبہا، ۱/۳۰۱، حدیث: ۱۲۔

③... معجم کبیر، ۱۰/۱۲۸، حدیث: ۱۰۱۹۶۔

④... مستدرک للحاکم، کتاب الزکوٰۃ، باب التغلیظ فی منع الزکوٰۃ، ۲/۶، حدیث: ۷۹۔

زکوٰۃ کس پر اور کب واجب ہوتی ہے؟

جواب زکوٰۃ واجب ہونے کی دس شرائط ہیں: (1) مسلمان ہونا (2) بلوغ (3) عقل

(4) آزاد ہونا (5) مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے

تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی (6) پورے طور پر اس کا مالک ہو یعنی اس پر قابض بھی

ہو (7) نصاب کا دین سے فارغ ہونا (8) نصاب حاجتِ اَصْلِيَّة سے فارغ ہو

(9) مال نامی ہونا یعنی بڑھنے والا خواہ حقیقتہً بڑھے یا حکماً (10) سال گزرنا، سال

سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند کے مہینوں سے بارہ (12) مہینے۔⁽¹⁾

کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟

جواب رشتہ داروں میں سے کوئی حاجت مند اور شرعی فقیر ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا

افضل ہے مگر ان کو دینے کی چند شرائط ہیں: (1) سید یا ہاشمی نہ ہو (2) والدین

(3) یا اپنی اولاد میں سے نہ ہوں (4) میاں بیوی نہ ہوں (5) ایسا نابالغ نہ ہو

جس کا والد غنی (صاحبِ نصاب مالدار) ہو۔ ان کے علاوہ بھائی، بہن، ساس،

سُسر، بہو، داماد، خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں۔ ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے

بشرطیکہ مُسْتَحِق ہوں (یعنی ان کو زکوٰۃ لگتی ہو)۔⁽²⁾

کیا پلاٹ پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟

جواب اگر پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیے تھے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں۔⁽³⁾

①... فتاویٰ اہلسنت، احکام زکوٰۃ، ص ۷۲۔

②... بہار شریعت، ۱/۹۲۷-۹۲۸۔ فتاویٰ اہلسنت، احکام زکوٰۃ، ص ۳۹۹۔

③... فتاویٰ اہلسنت، احکام زکوٰۃ، ص ۱۲۱۔

شادی کرنے، یا حج عمرے کے لئے جانے یا مکان خریدنے کے لئے جمع کی گئی رقم پر زکوٰۃ ہے؟

جواب اگر یہ رقم تنہا یا دوسرے مالِ زکوٰۃ سے مل کر نصاب کے برابر ہے اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے تو اس جمع کی گئی رقم پر زکوٰۃ ہے۔^(۱)

کیا عورت کے استعمالی زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟

جواب جی ہاں، ان میں بھی زکوٰۃ ہے اگرچہ وہ استعمال میں ہوں۔^(۲)

زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟

جواب زکوٰۃ کے مصارف سات (7) ہیں: (1) فقیر (2) مسکین (3) عامل (4) زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حاکم اسلام کا مقرر کردہ شخص (4) رِقَاب (مکاتب غلام) (5) غارم (مذیوں / متروض) (6) فِی سَبِيلِ اللّٰہ (جہاد یا حج کا ارادہ رکھنے والا یا طالب علم وغیرہ) اور (7) اِبْنِ سَبِيْل (مسافر جس کے پاس مال نہ رہا)۔⁽³⁾

کن جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نیز ان کی تعداد کتنی ہونا ضروری ہے؟

جواب تین قسم کے جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہے جبکہ وہ سائمہ ہوں۔ (1) اونٹ (2) گائے، بھینس (3) بکری۔ اونٹ پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں، گائے تیس یا تیس سے زیادہ ہوں اور بکریاں چالیس یا اس سے زیادہ ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے۔⁽⁴⁾

①... فتاویٰ اہلسنت احکام زکوٰۃ، ص ۱۰۰۔ فیضان زکوٰۃ، ص ۳۷-۳۸۔

②... نورا لایضاح، کتاب الزکاۃ، ص ۳۶۱۔

③... فتاویٰ اہلسنت، احکام زکوٰۃ، ص ۳۷۰۔

④... فتاویٰ اہلسنت، احکام زکوٰۃ، ص ۵۶۷۔ بہار شریعت، ۱/۸۹۳-۸۹۶ ماخوذ۔ جو جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرے

کیا زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟

جواب: جی ہاں! عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے تو اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ (1)

صدقہ

صدقہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ سے ثواب پانے کی امید پر جو عطیہ دیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ (2)

حدیث پاک میں صدقہ کرنے کی کیا فضیلت آئی ہے؟

جواب: حضور نبی مکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا اور بُری موت کو دفع کرتا ہے۔ (3)

صدقہ کرنے کے کوئی دس فائدے بیان فرمائیے؟

جواب: صدقہ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے دس یہ ہیں: (1) بُری موت سے بچنا (2) عمر زیادہ ہونا (3) رزق اور مال میں برکت ہونا (4) بلائیں دور

کر گزارہ کرتے ہوں اور چرانے سے مقصود دودھ اور بچے لینا اور فریہ کرنا ہو ان کو سائنہ کہتے ہیں۔ (درمختار و

رد المحتار، کتاب الزکاة، ۳/۲۳۲)

1... بہار شریعت، حصہ ۱، ۵/۹۱۶۔

2... کتاب التعریفات، باب الصاد، ص ۹۵۔

3... ترمذی، کتاب الزکاة، باب ساجاہ فی فضل الصدقہ، ۲/۱۴۶، حدیث: ۶۶۴۔

ہونا (5) مددِ الہی کا شامل حال ہونا (6) درجات کا بلند ہونا (7) رضائے الہی نصیب ہونا (8) گناہوں کا معاف ہونا (9) محبتوں میں اضافہ ہونا اور (10) ٹیڑھے کام درست ہونا وغیرہ۔^(۱)

صدقہ علانیہ کرنا بہتر ہے یا پوشیدہ؟

جواب پوشیدہ صدقہ کرنا بہتر ہے مگر دوسروں کی ترغیب کے لیے علانیہ صدقہ کرنا افضل ہے۔^(۲)

صدقہ کہاں خرچ کرے؟

جواب صدقہ رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلام لونڈیوں آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے۔ (ب، ۲، البقرہ: ۱۷۷)

صدقہ و خیرات کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟

جواب صدقہ و خیرات اُن غریب علماء، طلباء، مددِ سین اور دین کے خادموں وغیرہ کو دینا افضل ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمتِ دین کے لئے وقف کر دی ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہ کی گئی اور یہ طلبِ معاش کے لئے مجبوراً مشغول ہوئے تو دینِ اسلام کا سخت نقصان ہوگا۔^(۳)

کیا حرام مال سے صدقہ کیا جاسکتا ہے؟

جواب حرام مال سے صدقہ نہیں کیا جاسکتا، حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے

۱... ضیائے صدقات، ص ۱۷۴۔

۲... تفسیر مدارک، پ ۳، البقرہ، تحت الاية: ۲۷۱، ص ۱۳۹۔

۳... تفسیر نعیمی، پ ۳، البقرہ، تحت الاية: ۲۷۳، ۳ / ۱۳۴۔

مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو حرام مال جمع کرے پھر اس سے صدقہ دے تو اس میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں اور اس کا وبال اسی پر ہوگا۔⁽¹⁾

کیا قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟

جواب: جی ہاں! حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”ہر قرض صدقہ ہے۔“⁽²⁾

کیا بیوی اپنے شوہر کا مال صدقہ کر سکتی ہے؟

جواب: جی ہاں! حصولِ ثواب کی نیت سے شوہر کی رضامندی سے بیوی مال صدقہ کر سکتی ہے۔⁽³⁾

کیا صدقہ کرنے کے بعد واپس لے سکتے ہیں؟

جواب: نہیں لے سکتے کیونکہ حدیثِ پاک میں اس کی ممانعت ہے۔⁽⁴⁾

صدقاتِ واجبہ، نفلی صدقات اور آوقاف کی آمدنی بنی ہاشم کو دینا کیسا؟

جواب: صدقاتِ واجبہ (جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ) نہیں دے سکتے صدقہ نفل اور آوقاف کی آمدنی دے سکتے ہیں، خواہ وقف کرنے والے نے ان کی تعیین کی ہو یا نہیں۔⁽⁵⁾

1... صحیح ابن حبان، کتاب الزکوٰۃ، ذکر البیان بأن المال... الخ، ۸/۱۵۳، حدیث: ۳۳۶۷۔

2... شعب الایمان، باب فی الزکوٰۃ، فصل فی القرض، ۳/۲۸۲، حدیث: ۳۵۶۳۔

3... مرآة المناجیح، ۳/۱۲۷۔

4... بخاری، کتاب الزکوٰۃ، هل یشتري الرجل صدقته، ۱/۵۰۲، حدیث: ۱۲۸۹۔

5... فتاویٰ اہل سنت، احکام زکوٰۃ، ص ۴۲۳، ۴۲۴۔ بہار شریعت، حصہ ۵، ۱/۹۳۱۔

کیا کسی کا دیا ہوا تحفہ صدقہ کر سکتے ہیں؟

جواب: جی ہاں! حدیث شریف میں ہے: جب تمہیں بن مانگے کچھ دیا جائے تو کھاؤ اور صدقہ کرو۔^(۱)

روزہ

روزے کب فرض ہوئے؟

جواب: روزے 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوئے۔^(۲)

روزہ رکھنے کی فضیلت اور اجر و ثواب بتائیے؟

جواب: حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ دس سے سات سو گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا کیونکہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ سے ملاقات کے وقت اور روزہ دار کے منہ کی بُو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔^(۳)

کیا روزہ رکھنے کا کوئی طبی فائدہ بھی ہے؟

①... ابو داؤد، کتاب الزکاة، باب فی الاستعفاف، ۱۷۱/۲، حدیث: ۱۶۴۷۔

②... درمختار، کتاب الصوم، ۳/۳۸۳۔

③... مسلم، کتاب الصیام، باب فضل الصیام، ص ۵۸۰، حدیث: ۱۱۵۱۔

جواب: جی ہاں، روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول، دل کی گھبراہٹ دور، ذہنی ڈپریشن و نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نیز معدے، جگر اور پٹھوں کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔^(۱)

جواب: کیا روزہ رکھنے کے لئے نیت کرنا ضروری ہے؟

جواب: جی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے پورا دن بھوکا پیاسا رہے تو اس کا روزہ نہ ہوگا۔^(۲)

جواب: کیا روزہ رکھنے کے لئے سحری کرنا ضروری ہے؟

جواب: ضروری تو نہیں، ہاں سنت ہے۔^(۳) لہذا جان بوجھ کر اس عظیم سنت کو نہ چھوڑا جائے۔

جواب: کیا روزہ بند کرنے یا کھولنے کے لئے اذان ضروری ہے؟

جواب: جی نہیں! ”روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں۔ صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔“ یوں ہی ”جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نہ سائرن کا انتظار کیجئے، نہ اذان کا۔ فوراً کوئی چیز کھاپانی لیجئے۔“^(۴)

جواب: کس سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟

۱... فیضان رمضان، ص ۱۰۷۔

۲... درمختار و رد المحتار، کتاب الصوم، ۳/۳۸۲-۳۸۵۔

۳... بدائع الصنائع، کتاب الصوم، ۲/۲۶۶۔

۴... فیضان رمضان، ص ۱۷۳-۱۷۷۔

جواب اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان عَلیہ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کی تحقیق کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار ساڑھے ستاون میل (یعنی تقریباً بانوے کلومیٹر) ہے جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے (پندرہ دن سے کم کے لئے) اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا، وہ اب شرعاً مسافر ہے۔ اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے۔⁽¹⁾

جواب قے آنے سے روزہ کب ٹوٹتا ہے؟

جواب روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی اور وہ منہ بھر ہو اور اس قے میں کھانا، پانی، کڑوا پانی یا خون آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا اختیار قے ہوئی اب اگر وہ منہ بھر ہے اور اس میں ایک چپنے کے برابر واپس لوٹا دی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔⁽²⁾

جواب کیا جس پر غسل فرض ہو اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟

جواب جی ہاں، جنابت (یعنی غسل فرض ہونے) کی حالت میں صبح کی بلکہ سارا دن کوئی جنابت کی حالت میں رہا تو روزہ ہو جائے گا۔⁽³⁾ مگر اتنی دیر تک جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ و حرام ہے۔

جواب روزے کے کوئی 6 مکروہات بیان کیجئے؟

جواب جھوٹ، غیبت، بد نگاہی، گالی دینا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا، داڑھی

1... فیضان رمضان، ص ۲۳۵۔

2... رد المحتار کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد، ۳/۲۵۰۔

3... درمختار، کتاب الصوم، ۳/۲۲۸۔

منڈانا ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں روزہ میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہیت آتی اور روزہ کی نوریئت چلی جاتی ہے۔^(۱)

مجبوری کے سبب روزہ نہ رکھا تو مجبوری ختم ہونے پر کیا حکم ہے؟

بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن کے سبب رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مگر یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں وہ مجبوری ختم ہو جانے کے بعد اس کی قضا رکھنا فرض ہے۔ البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔^(۲)

روزے کا کفارہ کیا ہے؟

ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے اور یہ نہ کر سکے تو پے در پے ساٹھ روزے رکھے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے۔^(۳)

حج و عمرہ

احرام کے کیا معنی ہیں؟

احرام کے لفظی معنی ہیں: حرام کرنا کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔^(۴)

احرام کی حالت میں عطر کی شیشی ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں خوشبو لگ گئی تو کیا

①... فیضان رمضان، ص ۲۲۳۔

②... فیضان رمضان، ص ۲۳۴۔

③... رد المحتار کتاب الصوم، مطلب فی الکفارة، ۳/۲۴۷۔

④... رفیق المعتمرین، ص ۲۸۔

کفارہ ہے؟

جواب: اگر لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ بہت سی خوشبو لگ گئی ہے اگرچہ غُضُو کے تھوڑے سے حصے میں لگی ہو تو ذم واجب ہے، ورنہ معمولی سی خوشبو بھی لگ گئی تو صدقہ ہے۔^(۱)

سوال: کیا احرام کی حالت میں جُوں بھی نہیں مار سکتے؟

جواب: جی ہاں! جُوں مارنا، بھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اُس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جُوں مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرضیکہ کسی طرح اُس کے ہلاک پر باعث ہونا یہ سب حرام ہے۔^(۲)

سوال: اضطباع کسے کہتے ہیں؟

جواب: مرد اپنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اُس کے دونوں پتلے اُلٹے کندھے پر اس طرح ڈالے کہ سیدھا کندھا گھلا رہے۔^(۳)

سوال: استلام کیا ہے؟

جواب: حجرِ اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔^(۴)

①... بہار شریعت، حصہ ۱۰۶/۱۱۶۳ ماخوذاً، فتاویٰ ہندیہ، کتاب الحج، الباب الثامن فی الجنایات، ۱/۲۴۰۔

②... فتاویٰ رضویہ، ۱۰/۷۳۳۔

③... رد المحتار، کتاب الحج، مطلب فی دخول مکہ، ۳/۵۷۹۔

فتاویٰ ہندیہ، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیت اداء الحج، ۱/۲۲۵۔

④... رد المحتار، کتاب الحج، مطلب فی دخول مکہ، ۳/۵۷۸۔ بہار شریعت، حصہ ۱۰۶/۱۰۹۶۔

سعی کسے کہتے ہیں؟

جواب: صفا و مزوہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ (1)

رَمی کسے کہتے ہیں؟

جواب: جَمرات (یعنی شیطانوں) پر کنکریاں مارنا رمی کہلاتا ہے۔ (2)

رَمَل کسے کہتے ہیں؟

جواب: آکر کرشانے (کندھے) ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قدرے (یعنی تھوڑا) تیزی سے چلنا۔ (3)

طواف میں کتنے پھیرے اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟

جواب: سات (7) پھیرے اور آٹھ (8) استلام۔ (4)

تقصیر کی تعریف بتائیے؟

جواب: تقصیر یعنی کم از کم چوتھائی (1/4) سر کے بال اُنکلی کے پورے برابر کٹوانا۔ (5)

اسلامی بہنوں کی تقصیر کا آسان طریقہ کیا ہے؟

جواب: اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چٹیا کے سرے کو اُنکلی کے گرد لپیٹ کر اُتنا حصہ کاٹ لیں، لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی (1/4) سر کے بال

1... بہار شریعت، حصہ ۶، ۱۰۶ / ۱۰۴۸۔

2... رفیق الحرمین، ص ۶۰۔

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیت اداء الحج، ۲۲۶ / ۱۔

4... رفیق المعتمرین، ص ۶۲۔

5... فتاویٰ ہندیہ، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیت اداء الحج، ۲۳۱ / ۱۔

پورے کے برابر کٹ جائیں۔^(۱)

طواف میں کتنی اور کون کون سی باتیں حرام ہیں؟

جواب: طواف میں سات باتیں حرام ہیں: (۱) بے وضو طواف کرنا (۲) جو عضو ستر میں داخل ہے اس کا چوتھائی (1/4) حصہ کھلا ہونا، مثلاً ران یا آزاد عورت کا کان یا کلائی (۳) بے مجبوری سواری پر یا کسی کی گود میں یا کندھوں پر طواف کرنا (۴) بلا عذر بیٹھ کر سر کُنیا گھٹنوں پر چلنا (۵) کعبے کو سیدھے ہاتھ پر لے کر اُلٹا طواف کرنا (۶) طواف میں ”حطیم“ کے اندر ہو کر گزرنا (۷) سات پھیروں سے کم کرنا۔^(۲)

ذبح اور قربانی

قربانی کسے کہتے ہیں؟

جواب: مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔^(۳)

یَوْمُ النَّحْرِ کس دن کو کہا جاتا ہے؟

جواب: ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ”یَوْمُ النَّحْرِ“ کہتے ہیں۔^(۴)

قربانی کس پر واجب ہے؟

①... رفیق المعتمرین، ص ۸۵۔

②... فتاویٰ رضویہ، ۱۰/۴۲۴۔ بہار شریعت، حصہ ۶، ۱/۱۱۲-۱۱۳۔

③... درمختار کتاب الاضحیہ، ۹/۵۱۹۔

④... درمختار ورود المعتمرین، کتاب الاضحیہ، ۹/۵۲۹۔

جواب ہر بالغ، مُقیم، مسلمان مرد و عورت، مالکِ نصاب^(۱) پر قربانی واجب ہے۔^(۲)

جس پر قربانی واجب ہو لیکن پیسے نہ ہوں تو کیا کرے؟

جواب اگر قربانی اُس پر واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپیہ نہیں تو قرض لے

کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کا جانور حاصل کرے اور قربانی کرے۔^(۳)

قربانی کے جانوروں میں کس کی کتنی عمر ہونا ضروری ہے؟

جواب قربانی کے جانوروں میں اونٹ کی عمر پانچ سال، گائے کی عمر دو سال اور بکرے

کی ایک سال ہونا ضروری ہے اس سے کم ہو تو قربانی نہ ہوگی البتہ دُنْبہ یا بھیڑ کا

چھ ماہ کا بچہ جو دیکھنے میں سال کا لگے اس کی قربانی جائز ہے۔^(۴)

ذَنجُ میں کاٹی جانے والی چار رگوں کے نام بتائیے؟

جواب وہ چار رگیں یہ ہیں: (۱) حُلُقُوم، (۲) مَرِي اور (۳-۴) دَوْدَجِين۔^(۵)

جانور کو ذَنجُ کرنے میں کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے؟

۱... مالکِ نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اُس شخص کے پاس ساڑھے باؤن تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی

مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجتِ اصلیہ کے علاوہ سامان ہو اور اُس پر اللہ جل جلالہ کا اتنا قرض نہ ہو جسے

ادا کر کے ذکرِ کزّوہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہائے کرام رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ فرماتے ہیں: حاجتِ اصلیہ (یعنی ضروریاتِ زندگی)

سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی غُومًا انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزاراؤقت میں شدید تنگی و دشواری

محسوس ہوتی ہے جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار

وغیرہ۔ (البتق گھوڑے سوار، ص ۶)

۲... البتق گھوڑے سوار، ص ۶۔

۳... فتاویٰ امجدیہ، ۳/۳۱۵۔

۴... درمختار کتاب الاضحیۃ، ۹/۵۳۳۔

۵... درمختار وورد المحتار کتاب الذبائح، ۹/۲۹۱-۲۹۳۔

جواب: ذبح کی چار رگوں میں سے تین کا کٹ جانا کافی ہے اور اگر چاروں میں سے ہر

ایک کا اکثر حصہ بھی کٹ گیا تو جانور حلال ہے۔^(۱)

جانور کے پیٹ سے اگر بچہ نکلا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟

جواب: جی ہاں! اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔^(۲)

ایک اونٹ میں قربانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟

جواب: حدیث شریف کے مطابق ایک اونٹ کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔^(۳)

حجۃ اوداع کے موقع پر حضور اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے کتنے اونٹ نحر

فرمائے؟

جواب: اس موقع پر حضور نبی رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے مُقَدَّس ہاتھ

سے 63 اونٹ نحر فرمائے۔^(۴)

پیارے آقا صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بقر عید کے دن سب سے پہلے کھانے میں

کیا کھاتے؟

جواب: حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عید الاضحیٰ میں سب سے پہلے قربانی کی

کلیجی تناؤل فرماتے۔^(۵)

1... ردالمحتار، کتاب الذبائح، ۹/۹۳۔

2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الاضحیۃ، الباب السادس فی بیان ما یستحب فی الاضحیۃ... الخ، ۵/۳۰۱۔

3... مسلم، کتاب الحج، باب الاضطرار فی الہدی... الخ، ص ۶۸۳، حدیث: ۱۳۱۸۔

4... مسلم، کتاب الحج، باب حجۃ النبی، ص ۶۳، حدیث: ۱۴۱۸۔

5... المدخل، فصل من العوائد الر دینة... الخ، الموسم الاول عید الاضحی، ۱/۲۰۵۔

قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟

جواب: قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملتی ہے۔^(۱)

نکاح

پیارے آقا صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے نکاح کی اِسْتِطَاعَتِ ہونے یا نہ ہونے کی

صورت میں نکاح کرنے کے متعلق کیا حکم دیا ہے؟

جواب: پیارے آقا صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اے جو انو! تم میں جو کوئی

نکاح کی اِسْتِطَاعَتِ رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر

کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شَرْمَنگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس

میں نکاح کی اِسْتِطَاعَتِ نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطعِ شہوت (یعنی شہوت

کو توڑنے والا) ہے۔^(۲)

نکاح میں کون سے اُمور کا لحاظ رکھنا مُسْتَحَب ہے؟

جواب: نکاح میں یہ اُمور مُسْتَحَب ہیں: (۱) علانیہ ہونا (۲) نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا

(۳) مسجد میں ہونا (۴) جمعہ کے دن (۵) گواہانِ عادل کے سامنے (۶) عورت

عمر، حَسَب (خاندانی شرف)، مال، عزت میں مرد سے کم ہو اور (۷) چال چلن اور

اخلاق و تقویٰ و جمال میں پیش (یعنی زیادہ) ہو۔^(۳)

①... ترمذی، کتاب الاضاحی، باب ماجاء فی فضل الاضحیۃ، ۱۶۲/۳، حدیث: ۱۴۹۸۔

②... بخاری، کتاب النکاح، باب من لم یستطع الباءة فلیصمہ، ۲۲۲/۳، حدیث: ۵۰۶۶۔

③... درمختار، کتاب النکاح، ۴/۷۵۔

سوال: عورت سے اُس کی عزت یا مال کی وجہ سے نکاح کرنے والے کے لیے کیا عید ہے؟

جواب: رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عبرت نشان ہے: جو کسی عورت سے اس کی عزت کے باعث نکاح کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا۔^(۱)

سوال: کم سے کم مہر کتنا ہے؟

جواب: مہر کم سے کم دس درہم (یعنی دو تولہ ساڑھے سات ماشہ (30.618 گرام) چاندی یا اس کی قیمت) ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا۔^(۲)

سوال: کیا عورت کے مہر معاف کر دینے سے معاف ہو جائے گا؟

جواب: عورت کل مہر یا بجز (کچھ) معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا بشرطیکہ شوہر نے انکار نہ کر دیا ہو۔^(۳)

سوال: مہر کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب: مہر تین قسم (کا) ہے: (۱) مُنَجَّلٌ کہ خَلْوَت سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہے۔ (۲) مُنَوَّجَلٌ جس کے لئے کوئی میعاد مقرر ہو۔ (۳) مُطْلَقٌ جس میں نہ وہ ہونہ یہ (یعنی نہ خَلْوَت سے پہلے دینا قرار پایا ہو، نہ ہی اس کے لئے کوئی مدت مقرر ہو)۔^(۴)

①... معجم اوسط، ۱۸/۲، حدیث: ۲۳۲۲۔

②... فتاویٰ ہندیہ، کتاب النکاح، الباب السابع فی المہر، الفصل الاول، ۱/۳۰۳۔

③... درمختار، کتاب النکاح، باب المہر، ۲/۲۳۹۔

④... بہار شریعت، حصہ ۷، ۲/۷۴۔

مہر نہ دینے کی نیت سے نکاح کرنے والے کے لئے کیا وعید ہے؟

جواب حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہ دے گا تو جس روز مرے گا زانی مرے گا۔^(۱)

کیا مرد کا پری سے اور عورت کا جن سے نکاح ہو سکتا ہے؟

جواب مرد کا پری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔^(۲)

بچے کو ماں کا دودھ کتنے سال تک پلانے کی اجازت ہے؟

جواب بچہ کو دو برس تک دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں اور برس سے مراد ہجری برس ہے۔^(۳)

کیا لڑکے اور لڑکی کو دودھ پلانے کی مدت میں کوئی فرق ہے؟

جواب جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو دو برس تک اور لڑکے کو ڈھائی برس تک پلا سکتے ہیں یہ صحیح نہیں۔^(۴)

کیا مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج دودھ پلایا جا سکتا ہے؟

جواب مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج بھی دودھ پلانا جائز نہیں۔^(۵)

①... معجم کبیر، ۸/۳۵، حدیث: ۷۳۰۲۔

②... درمختار و رد المحتار، کتاب النکاح، ۴/۷۰۔

③... بہار شریعت، حصہ ۲، ۷۶/۳۶۔ خزائن العرفان، پ، ا، البقرة، تحت الآیة: ۱۸۹، ص ۶۳ ماخوذ۔

④... بہار شریعت، حصہ ۲، ۷۶/۳۶۔

⑤... درمختار، کتاب النکاح، باب الرضاع، ۴/۳۸۹۔

حُزْمَتِ رِضَاعَتٍ یعنی نکاح حرام ہونے کے لیے دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟
جواب نکاح حرام ہونے کے لیے ڈھائی برس کا زمانہ ہے یعنی دو برس کے بعد اگرچہ
 دودھ پلانا حرام ہے مگر ڈھائی برس کے اندر اگر دودھ پلا دے گی حُرْمَتِ نِكَاحِ
 ثابت ہو جائے گی۔^(۱)

طلاق، عدت اور سوگ

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کو کونسی حلال چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے؟
جواب حدیث شریف میں ہے: اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ یعنی اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ
 کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ شے طلاق ہے۔^(۲)

طلاق کسے کہتے ہیں؟
جواب نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے اس پابندی کے اٹھادینے کو طلاق
 کہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ الفاظ مُقَرَّر ہیں۔^(۳)
 طلاق بائن اور رجعی میں کیا فرق ہے؟

جواب طلاق کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ عورت اسی وقت نکاح سے باہر ہو جائے اسے
 بائن کہتے ہیں۔ دوم یہ کہ عدت گزرنے پر باہر ہوگی، اسے رجعی کہتے ہیں۔^(۴)
 کیا نشہ کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی؟

۱... بہار شریعت، حصہ ۷، ۲/۳۶۔

۲... ابوداؤد، کتاب الطلاق، باب کراهية الطلاق، ۲/۳۷۰، حدیث: ۲۱۷۸۔

۳... بہار شریعت، حصہ ۸، ۲/۱۱۰۔

۴... بہار شریعت، حصہ ۸، ۲/۱۱۰۔

جواب: نشہ والے نے طلاق دی تو واقع ہو جائے گی، نشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بھنگ وغیرہ کسی اور چیز سے۔ ایون کی پینگ میں طلاق دے دی جب بھی واقع ہو جائے گی طلاق میں عورت کی جانب سے کوئی شرط نہیں نابالغہ ہو یا مجنونہ بہر حال طلاق واقع ہوگی۔^(۱)

سوال: عِدَّت سے کیا مراد ہے؟

جواب: نکاح ختم ہونے کے بعد عورت کو نکاح کی ممانعت ہونا اور ایک مدت تک انتظار کرنا عِدَّت ہے۔^(۲)

سوال: جس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عِدَّت کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَكُنَّ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: ”اور تم میں جو مرے اور بیویاں چھوڑیں وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔“ (پ، البقرہ: ۲۳۴) تفسیر خزائن العرفان میں ہے: یہاں غیر حاملہ کا بیان ہے جس کا شوہر مر جائے اس کی عِدَّت چار ماہ دس روز ہے۔^(۳)

سوال: حاملہ عورت کی عِدَّت کیا ہے؟

جواب: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (پ، الطلاق: ۴) ترجمہ کنز الایمان: ”اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا

①... بہار شریعت، حصہ ۸، ۲/۱۱۱-۱۱۲۔

②... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطلاق، الباب الثالث عشر فی العدة، ۱/۵۲۶۔

③... خزائن العرفان، پ، البقرہ، تحت الآیۃ: ۲۳۴، ص ۸۰۔

حمل جن لیں۔“مسئلہ: حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل (بچے کی پیدائش تک) ہے خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی۔^(۱)

حمل کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟

جواب: حمل کی مدت کم سے کم چھ مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو سال ہے۔^(۲)

سوگ کے کیا معنی ہیں؟

جواب: سوگ کے یہ معنی ہیں کہ زینت کو ترک کرے۔^(۳)

کس عورت پر سوگ واجب ہے؟

جواب: سوگ اُس پر ہے جو عاقلہ بالغہ مسلمان ہو اور موت یا طلاق بائن کی عدت ہو۔^(۴)

شوہر کے مرنے پر عورت کو کتنے دن کے سوگ کا حکم ہے؟

جواب: حضور نبی رحمت، شفیعِ اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو عورت

اللہ عَزَّوَجَلَّ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے حلال نہیں کہ کسی میت پر تین راتوں سے زیادہ سوگ کرے مگر شوہر پر کہ چار مہینے دس دن سوگ کرے۔^(۵)

قریبی رشتے دار کے مرجانے پر عورت کو کتنے دن سوگ کرنے کی اجازت ہے؟

①... خزائن العرفان، پ ۲۸، الطلاق، تحت الآیة: ۴، ص ۱۰۳۳۔

②... رد المحتار کتاب الطلاق، فصل فی ثبوت النسب، ۵/۲۳۴۔

③... بہار شریعت، حصہ ۸، ۲/۲۴۲۔

④... بہار شریعت، حصہ ۸، ۲/۲۴۳۔

⑤... بخاری، کتاب الجنائز، باب احداث المرأة علی غیر زوجها، ۱/۴۳۳، حدیث: ۱۲۸۰۔

جواب: کسی قریبی کے مرنے پر عورت کو تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے اس سے زائد کی نہیں اور عورت شوہر والی ہو تو شوہر اس سے بھی منع کر سکتا ہے۔^(۱)

قسم

یَمِین یعنی قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب: قسم کی تین قسمیں ہیں: (۱) غَمُوس (۲) لَعُو (۳) مُنْعَقِدَه۔^(۲)

یَمِینِ غَمُوس کسے کہتے ہیں؟

جواب: غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر (یعنی معاملے) پر دانستہ (یعنی جان بوجھ کر) جھوٹی قسم کھائے۔^(۳)

یَمِینِ غَمُوس کا حکم بتائیں؟

جواب: یَمِینِ غَمُوس کھانے والا سخت گنہگار ہوا، استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔^(۴)

یَمِینِ لَعُو کسے کہتے ہیں؟

جواب: لَعُو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر (یعنی معاملے) پر اپنے خیال میں (یعنی غلط فہمی کی وجہ سے) صحیح جان کر قسم کھائے اور درحقیقت وہ بات اس کے

۱... رد المحتار، کتاب الطلاق، فصل فی العداد، ۵/۲۲۳۔

۲... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الأیمان، الباب الثانی فیما یكون یمینا... الخ، ۲/۵۲۔

۳... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الأیمان، الباب الثانی فیما یكون یمینا... الخ، ۲/۵۲۔

۴... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الأیمان، الباب الثانی فیما یكون یمینا... الخ، ۲/۵۲۔

خلاف (یعنی اُلٹ) ہو۔^(۱)

بیمین لُغو کا حکم بتائیں؟

جواب: بیمین لُغو معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔^(۲)

بیمین مُنْعَقِدَہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: بیمین مُنْعَقِدَہ یہ ہے کہ مُسْتَقْبِل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی۔^(۳)

بیمین مُنْعَقِدَہ کا حکم بتائیں؟

جواب: بیمین مُنْعَقِدَہ میں اگر قسم توڑے گا کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں

گنہگار بھی ہوگا۔^(۴)

جھوٹی قسم کھانے سے متعلق نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا کیا فرمان ہے؟

جواب: نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمان ہے: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے ساتھ

شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا

کبیرہ گناہ ہیں۔“^(۵)

سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟

جواب: پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔^(۶)

①... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الایمان، الباب الثانی فیما یكون بیمناً... الخ، ۲/۵۲۔

②... بہار شریعت، ۲/۲۹۹، ملخصاً۔

③... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الایمان، الباب الثانی فیما یكون بیمناً... الخ، ۲/۵۲۔

④... بہار شریعت، ۲/۲۹۹۔

⑤... بخاری، کتاب الایمان والنذور باب بیمن الغموس، ۲/۲۹۵، حدیث: ۶۶۷۵۔

⑥... خزائن العرفان، پ، ۸، الاعراف، تحت الآیۃ: ۲۲، ص ۲۸۹۔

غلطی سے قسم کھالی تو کیا اُس پر بھی کفارہ ہوگا؟

جواب: غلطی سے قسم کھا بیٹھا مثلاً کہنا چاہتا تھا کہ پانی پلاؤ اور زبان سے نکل گیا کہ ”خدا کی قسم پانی نہیں پیوں گا۔“ تو یہ بھی قسم ہے اگر توڑے گا کفارہ دینا ہوگا۔^(۱)

بھول کر یا کسی کے مجبور کرنے پر قسم توڑی تو بھی کفارہ دینا ہوگا؟

جواب: قسم توڑنا کسی کے مجبور کرنے سے ہو یا بھول چوک سے ہر صورت میں کفارہ ہے۔^(۲)

کیا دوسرے کے قسم دلانے سے قسم ہو جائے گی؟

جواب: دوسرے کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی۔ مثلاً کہا: تمہیں خدا کی قسم یہ کام کر دو۔ تو اس کہنے سے (جس سے کہا گیا) اُس پر قسم نہ ہوئی یعنی نہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں۔^(۳)

لُقْطَةُ

لُقْطَةُ کسے کہتے ہیں؟

جواب: لُقْطَةُ اس مال کو کہتے ہیں جو کہیں پڑا ہو اہل جائے۔^(۴)

لُقْطَةُ کس صورت میں اٹھالینا مُسْتَحَب ہے؟

جواب: پڑا ہو اہل کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اٹھالینا مُسْتَحَب ہے۔^(۵)

①... تبیین الحقائق، کتاب الأیمان، ۲۳/۳۔

②... تبیین الحقائق، کتاب الأیمان، ۲۳/۳۔

③... بہار شریعت، ۲/۳۰۳۔

④... درمختار، کتاب اللقطة، ۶/۲۲۱۔

⑤... درمختار وورد المحتار، کتاب اللقطة، ۶/۲۲۲۔

کس صورت میں لفظ چھوڑ دینا بہتر ہے؟

جواب: اگر اندیشہ ہو کہ لفظ شاید میں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو تلاش نہ کروں تو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ (1)

کس صورت میں لفظ اٹھانا جائز نہیں؟

جواب: اگر ظن غالب ہو کہ مالک کو نہ دوں گا تو اٹھانا جائز نہیں اور اپنے لئے اٹھانا حرام ہے کیونکہ یہ غضب (یعنی کسی کامال چھین لینے) کی طرح ہے۔ (2)

کس صورت میں لفظ اٹھالینا ضروری ہے؟

جواب: اگر ظن غالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع اور ہلاک ہو جائے گی تو اٹھا لینا ضروری ہے لیکن اگر نہ اٹھائے اور ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں۔ (3)

لفظ کو استعمال کی نیت سے اٹھایا مگر پھر ندامت ہوئی تو کیا حکم ہے؟

جواب: لفظ کو اپنے تصرف میں لانے کیلئے اٹھایا پھر نادم ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے اور جہاں سے لایا وہیں رکھ آیا تو بَرِيءُ الذَّمِّ نہ ہو گا یعنی اگر ضائع ہو گیا تو تاوان دینا پڑے گا بلکہ اس پر لازم ہے کہ مالک کو تلاش کرے اور اس کے حوالہ کر دے۔ (4)

وہ کونسی صورت ہے کہ لفظ اٹھایا، پھر وہیں رکھ دیا اور ضائع ہو گیا مگر تاوان نہیں؟

1... درمختار وورد المحتار، كتاب اللقطة، ۶/۲۲۲۔

2... درمختار وورد المحتار، كتاب اللقطة، ۶/۲۲۲۔

3... درمختار وورد المحتار، كتاب اللقطة، ۶/۲۲۳۔

4... درمختار وورد المحتار، كتاب اللقطة، ۶/۲۲۲۔

جواب: اگر لفظ مالک کو دینے کے لیے اٹھایا تھا مگر پھر وہیں رکھ آیا جہاں سے لایا تھا تو ضائع ہونے کی صورت میں تاوان نہیں۔^(۱)

سوال: کیا لفظ کا اعلان کرنا ضروری ہے؟

جواب: جی ہاں، حدیث پاک میں اعلان کا حکم دیا گیا ہے۔^(۲)

سوال: لفظ اٹھانے کے لیے کتنے عرصے تک اس کا اعلان کرنا ضروری ہے؟

جواب: لفظ اٹھانے والے پر اُس کی تشہیر کرنا لازم ہے یعنی بازاروں اور شارعِ عام اور مساجد میں اُس وقت تک اعلان کرے کہ ظن غالب ہو جائے کہ مالک اب تلاش نہ کرتا ہو گا۔^(۳)

سوال: شادی میں لٹانے کے لیے دیئے گئے پیسے کسی اور کو لٹانے کے لیے دینا کیسا؟

جواب: شادیوں میں روپے پیسے لٹانے کے لیے جس کو دیئے وہ خود لٹائے، دوسرے کو لٹانے کے لیے نہیں دے سکتا اور کچھ بچا کر اپنے لئے رکھ لے یا گرا ہوا (روپیہ پیسہ) خود اٹھالے یہ جائز نہیں۔^(۴)

سوال: شادی میں چھوہارے وغیرہ لٹانے کے لیے کسی کو دیئے تو کیا حکم ہے؟

جواب: شکر چھوہارے لٹانے کو دیئے تو بچا کر کچھ رکھ سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کے لیے دے سکتا ہے اور دوسرے نے لٹائے تو اب وہ بھی لوٹ سکتا ہے۔^(۵)

۱... درمختار وورد المحتان کتاب اللقطة، ۶/۲۲۲۔

۲... مسلم، کتاب اللقطة، باب فی لقطة الحاج، ص ۹۵۰، حدیث: ۱۷۲۵۔

۳... فتاویٰ ہندیہ، کتاب اللقطة، ۲/۲۸۹۔

۴... فتاویٰ خانیہ، کتاب اللقطة، ۲/۳۵۸۔

۵... فتاویٰ خانیہ، کتاب اللقطة، ۲/۳۵۸۔

کیا کوئی ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے گئی ہوئی چیز مل جائے؟

جواب جی ہاں، جب کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں: ”يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبَيْعَادَ اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي“ صَلَاتِي کی جگہ اس گمشدہ چیز کا نام ذکر کرے وہ چیز مل جائے گی۔ امام نووی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اس کو میں نے آزمایا ہے گئی ہوئی چیز جلد مل جاتی ہے۔^(۱)

وقف اور چندہ

وقف کے کیا معنی ہیں؟

جواب وقف کے یہ معنی ہیں کہ کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملک کر دیا جائے اس طرح کہ اس کا نفع بندگانِ خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے۔^(۲)

وقف کی چیز میں مالکانہ تصرف کرنا کیسا ہے؟

جواب وقف میں تصرفِ مالکانہ حرام ہے اور مُتَوَلَّی جب ایسا کرے تو فرض ہے کہ اسے نکال دیں اگرچہ (وہ) خود واقف (یعنی وقف کرنے والا ہی) ہو۔^(۳)

چندہ کیسے استعمال کیا جائے؟

جواب چندے کا اصول یہ ہے کہ جس مَدَّ (یعنی غنوان) میں وصول کیا اُس کے علاوہ کسی

①... رد المحتار، کتاب اللقطة، مطلب سرق مکعبه ووجود سنله اودونه، ۶/۳۸-۳۷۔

②... وقف کے شرعی مسائل، ص ۳۰۔

③... فتاویٰ رضویہ، ۱۶/۱۶۲۔

اور مذ میں استعمال کرنا گناہ ہے۔^(۱)

اجتماع کے لیے کیا گیا چندہ بچ گیا تو کیا کریں؟

جواب چندہ دینے والے اگر معلوم ہوں تو بچی ہوئی رقم انہیں کو لوٹانی ضروری ہے،

ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مَصْرَف میں استعمال کرنا جائز نہیں اور اگر معلوم نہ ہوں تو جس کام کے لئے چندہ دینے والوں نے دیا تھا اسی میں صرف کریں (مثلاً سنتوں بھرے اجتماع کے لئے دیا تھا تو کسی دوسرے سنتوں بھرے اجتماع پر خرچ کریں) اگر اس طرح کا کوئی دوسرا کام نہ پائیں تو فقرا پر تصدق کریں۔^(۲)

رمضان المبارک میں لوگ مسجد میں جو افطاری بھجواتے ہیں کیا غیر روزہ دار اُسے کھا سکتا ہے؟

جواب جو افطاری روزہ داروں کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ غیر روزہ دار نہیں کھا سکتا،

بالفرض کوئی مریض یا مسافر ہے یا کسی وجہ سے اُس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے تو وہ اُس افطاری میں شریک نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: غیر روزہ داروں کو اس کا کھانا حرام ہے۔^(۳)

کیا مُتَوَلّیٰ مسجد کا چندہ کسی کو اُدھار دے سکتا ہے؟

جواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: مُتَوَلّیٰ کو روا

(یعنی جائز) نہیں کہ مالِ وَقْف کسی کو قرض (دے) یا بِطَوْر قرض اپنے لَهْرُف

①... فتاویٰ امجدیہ، ۳/ ۳۸، ۳۹، چندے کے بارے میں سوال جواب، ص ۲۰۔

②... چندے کے بارے میں سوال جواب، ص ۲۲-۲۳۔

③... فتاویٰ رضویہ، ۱۶/ ۲۸۷۔

میں لائے۔^(۱)

کیا بچ جانے کی صورت میں مدرسے میں پکایا گیا کھانا محلے میں تقسیم کر سکتے ہیں؟

جواب: وہ کھانا جو مدرسے میں پکایا گیا ہو اور بچ جائے، دوسرے وقت طلبہ بھی نہ

کھائیں، خراب ہو جانے کا اندیشہ ہونے کی صورت میں محلے یا عام مسلمانوں

میں تقسیم کر سکتے ہیں۔^(۲)

اپنی دکان پر یا گھر میں پینے کے لیے مسجد یا مدرسے کے کولر سے ٹھنڈا پانی بھر

کر لے جانا کیسا؟

جواب: ناجائز ہے، مُؤَدِّن، خادم یا امام بلکہ مُتَوَلِّیٰ بھی چندے کی ان چیزوں کو

خلافِ شریعت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔^(۳)

کسی سے مدرسے کا ڈیسک ٹوٹ گیا تو کیا حکم ہے؟

جواب: اگر اس کی اپنی غلطی سے ڈیسک ٹوٹا یا کوئی سائنقصان ہوا تو اتنا وان دینا ہو گا اگر

اپنی غلطی سے ایسا نہیں ہوا تو اس پر مُؤَاخَذَہ نہیں۔^(۴)

مدرسے کے ڈیسک، دروازے اور دیوار وغیرہ پر کچھ لکھنا کیسا؟

جواب: مدرسہ اور مسجد کی چیزوں پر گجھا، کسی دوسرے کے مکان، دکان، دیوار، دروازے

یا گاڑی اور بس وغیرہ چیزوں پر بھی بلا اجازتِ شرعی کچھ لکھنا سنٹیکر یا اشتہار

①... فتاویٰ رضویہ، ۱۶/ ۵۷۴۔

②... چندے کے بارے میں سوال جواب، ص ۵۵۔

③... چندے کے بارے میں سوال جواب، ص ۵۷۔

④... چندے کے بارے میں سوال جواب، ص ۶۱۔

چسپاں کرنا ممنوع ہے۔ (1)

زکوٰۃ و فطرے کا حیلہ کرنے کا آسان طریقہ بتائیے؟

جواب کسی فقیر شرعی کو یا اس کے وکیل کو مالِ زکوٰۃ و فطرہ کا مالک بنا دیا جائے مثلاً اُس

کو نوٹوں کی گڈی یہ کہہ کر دیدی کہ یہ آپ کی ملک ہے۔ وہ اُس کو ہاتھ میں لے کر یا کسی طرح قبضہ کر لے اب یہ اس کا مالک ہو گیا اور کسی بھی کام (مثلاً مسجد کی تعمیر وغیرہ) میں صرف کر دے۔ یوں زکوٰۃ ادا ہونے کے ساتھ

ساتھ دونوں ثواب کے بھی حقدار ہوں گے۔ اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ (2)

مدنی قافلے کے اختتام پر اگر مُشترکہ رقم بچ جائے تو کیا کیا جائے؟

جواب واجب ہے کہ پائی پائی کا حساب کر کے ہر ایک کو اُس کے حصے کی رقم لوٹا دی

جائے۔ ہاں جو مرضی سے اپنے حصے کی رقم کسی کارِ خیر میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، باہم مشورہ سے مثلاً یہ بھی طے کیا جاسکتا ہے کہ ہم بچی ہوئی رقم اسی مسجد کے چندے میں پیش کر دیتے ہیں۔ (3)

مسجد

کوئی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟

جواب مروی ہے کہ اَلْمَسْجِدُ حِصْنٌ حَصِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ۔ یعنی مسجد شیطان سے

بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ (4)

1... چندے کے بارے میں سوال جواب، ص ۶۱۔

2... چندے کے بارے میں سوال جواب، ص ۷۱۔

3... چندے کے بارے میں سوال جواب، ص ۹۲۔

4... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ماجاء فی لزوم المساجد، ۱/۷۲، حدیث: ۴۔

رضائے الہی کے لیے مسجد بنانے کا کیا ثواب ہے؟

جواب حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اللہ عزوجل کے لئے

ایک مسجد بنائے گا اللہ عزوجل اُس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔^(۱)

کسی عمارت کے مسجد ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟

جواب مسجد ہونے کے لیے یہ ضرور ہے کہ بنانے والا کوئی ایسا فعل کرے یا ایسی بات

کہے جس سے مسجد ہونا ثابت ہوتا ہو محض مسجد کی سی عمارت بنا دینا مسجد ہونے

کیلئے کافی نہیں۔^(۲)

مسجد بنائی اور جماعت کی اجازت دے دی تو کیا یہ مسجد ہونے کیلئے کافی ہے؟

جواب مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیدی مسجد ہو گئی اگرچہ

جماعت میں دو ہی شخص ہوں مگر یہ جماعت علی الاطلاق یعنی اذان و اقامت

کے ساتھ ہو۔^(۳)

مسجدیں خوشبودار رکھنے کے متعلق حدیث پاک میں کیا حکم ہے؟

جواب اُم المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور

نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ

کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔^(۴)

①... ابن ماجہ، کتاب المساجد، باب من بنی للہ مسجداً، ۴۰۸/۱، حدیث: ۷۳۷۔

②... فتاویٰ خانقہ، کتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره... الخ، ۲۹۶/۲۔ بہار شریعت، حصہ ۲۰، ۵۵۷۔

③... بہار شریعت، حصہ ۲۰، ۵۵۷۔

④... ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد فی الدور، ۱۹۷/۱، حدیث: ۴۵۵۔

کون سے صحابی مسجد نبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیتے تھے؟

جواب: امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جَمَعَةَ الْمَبَارِكِ كِے دن

مسجد نبوی شریف عَلِ صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔⁽¹⁾

منہ میں بدبو ہو تو کیا مسجد جاسکتے ہیں؟

جواب: جی نہیں! منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے۔⁽²⁾

مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا چاہئے؟

جواب: جب سے (مسجد میں) داخل ہو باہر آنے تک اعتکاف کی نیت کر لے انتظار نماز

وادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔⁽³⁾

کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں جانا کیسا؟

جواب: صدر الشریعہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: مسجد

میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک کہ بوباتی ہو۔⁽⁴⁾

مسجد میں کونسی بدبودار چیزوں کی ممانعت ہے؟

جواب: (1) کچا لہسن (2) کچی پیاز (3) گندنا (یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے) (4) مُمُولی

(5) کچا گوشت (6) مٹی کا تیل (7) وہ دیاسلانی جس کے رگڑنے میں بُو اُڑتی ہو

(8) ریاح خارج کرنا (9) بدبودار زخم (10) کوئی بدبودار دوا لگانا۔⁽⁵⁾

1... مستند ابی یعلیٰ، مستند عمر بن الخطاب، ۱/۱۰۳، حدیث: ۱۸۵۔

2... فتاویٰ رضویہ، ۷/۳۸۴، خلاصہ۔

3... فتاویٰ رضویہ، ۵/۶۷۴۔

4... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱۴۳/۶۲۸۔

5... رد المحتار، کتاب الصلاة، مطلب فی الغرس فی المسجد، ۲/۵۲۵۔

مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ ہیں۔ مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، یہ جائز کلام کے متعلق ہے ناجائز کلام کے گناہ کا کیا پوچھنا۔⁽¹⁾

مسجد کے کچھ آداب بیان کریں؟

جواب (1) مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا، جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔
 (2) مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا ہرگز نہ پھینکیں۔ (3) مسجد میں جھاڑو دینے میں جو گرد اور کوڑا وغیرہ نکلے وہ ایسی جگہ مت ڈالئے جہاں بے ادبی ہو۔ (4) مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے۔ (5) وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے۔
 (6) مسجد میں اگر چھینک یا کھانسی آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے۔
 (7) منخرہ پن ویسے ہی ممنوع ہے اور مسجد میں سخت ناجائز۔ (8) مسجد میں کسی طرف پاؤں نہ پھیلانے۔⁽²⁾

کسب اور تجارت

سب سے بہتر کمائی کونسی ہے؟

جواب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے بہتر غذا وہ ہے جو

1... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۴۹۹۔

2... نیکی کی دعوت، ص ۲۱۷-۲۲۰ مخصا و ملتقطاً۔

انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائے، حضرت داؤد عَلَيْهِ السَّلَام بھی اپنی کمائی سے کھاتے تھے۔ (1)

اسلام میں حلال کمائی کی کیا اہمیت ہے؟

حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: حلال روزی طلب کرنا فرض کے بعد فرض ہے۔ (2)

جھوٹ سے رزق میں کیا اثر پڑتا ہے؟

حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: والدین کے ساتھ نیک سلوک عمر میں اضافہ کرتا، جھوٹ رزق میں کمی کرتا اور دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ (3)

تاجر کو کیسا ہونا چاہئے؟

حضور رحمتِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں برائی نہ نکالیں اور جب کچھ بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہ کریں اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو وصولی کے لیے تنگی نہ کریں۔ (4)

1... بخاری، کتاب البیوع، باب کسب الرجل وعملہ بیدہ، ۱۱/۲، حدیث: ۲۰۷۲۔

2... شعب الایمان، السنون من شعب الایمان... الخ، ۶/۲۰، حدیث: ۸۷۱۔

3... الکامل لابن عدی، ۶۰۰ - خالدین اسماعیل... الخ، ۳/۷۹۔

4... شعب الایمان، الرابع والثلاثون من شعب الایمان... الخ، ۲/۲۱، حدیث: ۸۵۴۔

کیا کمانے کے لیے بھی علم دین ضروری ہے؟

جواب جی ہاں کیونکہ حرام روزی سے وہی بچ سکے گا جسے حلال و حرام کا علم ہوگا۔

حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حکم فرمادیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہی خرید و فروخت کریں جو فقیہ (یعنی علم والے) ہوں۔^(۱)

کس تاجر پر اللہ عَزَّوَجَلَّ غضب فرماتا ہے؟

جواب وہ تاجر جو بہت قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔^(۲)

عام مسلمانوں کی طرح کس چیز کا حکم پیغمبروں کو بھی دیا گیا؟

جواب حضور امامُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرماتے ہیں: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے

مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا، ارشاد فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾ (ب، ۱۸، المؤمنون: ۵۱)

ترجمہ کنزالایمان: ”اے پیغمبر و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو میں تمہارے کاموں

کو جانتا ہوں۔“ اور فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۝﴾

(ب، ۲، البقرة: ۱۷۲) ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی سٹھری

چیزیں۔“^(۳)

بھیک مانگنے سے بچنے والوں کے لیے حدیث شریف میں کیا خوشخبری ہے؟

جواب سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ جنتِ نشان ہے:

①... ترمذی، کتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي، ۲۹/۲، حدیث: ۳۸۷۔

②... شعب الایمان، الرابع والثلاثون من شعب الایمان... الخ، ۲۲۰/۲، حدیث: ۳۸۵۳۔

③... مسلم، کتاب الزکاة، باب قبول الصدقة من الكسب... الخ، ص ۵۰۶، حدیث: ۱۰۱۵۔

جو کوئی بھیک نہ مانگنے کا ضامن بن جائے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔^(۱)

سچا اور امانت دار تاجر قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟

جواب: حدیث پاک میں ہے: سچا اور امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔^(۲)

ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کونسا پیشہ اختیار فرمایا؟

جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً کپڑا بننے کا کام کیا^(۳) اور بعد میں کھیتی باڑی کو اختیار فرمایا۔^(۴)

حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟

جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام (بڑھئی کا پیشہ) تھا۔^(۵)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟

جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔^(۶)

قرض اور سود

قرض دے کر اُس پر نفع لینا کیسا ہے؟

- ①... ابو داؤد، کتاب الزکاة، باب کراهية المسألة، ۱۷۰/۲، حدیث: ۱۶۲۳۔
- ②... ترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی التجار... الخ، ۵/۳، حدیث: ۱۲۱۳۔
- ③... فردوس الأبحان، باب النلام والائف، ۲/۱۵، حدیث: ۷۵۵۲۔
- ④... مستدرک حاکم، کتاب تواریخ المتقدمین... الخ، ذکر حرف الانبیاء علیہم السلام، ۳/۲۹۱، حدیث: ۲۲۲۱۔
- ⑤... مستدرک حاکم، کتاب تواریخ المتقدمین... الخ، ذکر حرف الانبیاء علیہم السلام، ۳/۲۹۱، حدیث: ۲۲۲۱۔
- ⑥... مستدرک حاکم، کتاب تواریخ المتقدمین... الخ، ذکر حرف الانبیاء علیہم السلام، ۳/۲۹۱، حدیث: ۲۲۲۱۔

جواب امام اہلسنت امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَلٰٓئِکَاتِ فتاویٰ رضویہ، جلد ۱، صفحہ ۷۱۳ پر فرماتے ہیں: قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع وفائدہ حاصل ہو وہ سب سود اور نرا حرام ہے۔ حدیث میں ہے رسولُ اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا۔ قرض سے جو فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔^(۱)

قرآن کریم میں سود کی مذمت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟

جواب قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ۲۷۵ تا ۲۷۹ میں سود کی بھرپور مذمت فرمائی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سود کھانے والے بروز قیامت ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آسیب زدہ شخص سیدھا کھڑا ہونے کی بجائے گرتے پڑتے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، سود نہ چھوڑنے والا مدتوں دوزخ میں رہے گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سود کو ہلاک (برکت سے محروم) کرتا ہے پس اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔

جواب حدیث شریف میں سود کی کیا مذمت بیان ہوئی ہے؟

جواب حدیث پاک میں ہے کہ حضور سید عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا: یہ سب (گناہ میں) برابر ہیں۔^(۲) اور ارشاد فرمایا: سود کا گناہ

① ... مستند حارث، کتاب البیوع، باب فی القرض یجر المنفعة، ۱/ ۵۰۰، حدیث ۷۳۷۔

② ... مسلم، کتاب المساقاۃ، باب لعن اکل الربا وموکلہ، ص ۸۲۲، حدیث ۱۵۹۸۔

ایسے ستر گناہوں کے برابر ہے جن میں سب سے کم درجہ کا گناہ یہ ہے کہ مرد اپنی ماں سے بدکاری کرے۔^(۱)

بینک میں ڈگنا ہونے کے لیے پیسہ جمع کرنا کیسا ہے؟

جواب: بینک میں اس طرح پیسہ جمع کروانا ناجائز و حرام ہے کیونکہ اس پر جو منافع مل رہا ہے یہ سود ہے اور سود کو اللہ جلّ مجدّد نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے۔^(۲)

دکاندار کو مخصوص رقم پیشگی دینا اور تھوڑا تھوڑا سامان خرید کر پیسے کٹواتے رہنا کیسا ہے؟

جواب: اس طرح روپیہ دینا ممنوع ہے کہ اس قرض سے یہ نفع ہوا کہ اپنے پاس رہنے میں پیسے ضائع ہونے کا احتمال تھا اب یہ احتمال جاتا رہا اور قرض سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔^(۳)

کیا موبائل کمپنی سے ایڈوائس بیلنس لینا سودی معاملہ ہے؟

جواب: یہ ہرگز سود نہیں ہے بلکہ ایک جائز طریقہ ہے کیونکہ یہ اجارہ ہے قرض نہیں ہے کیونکہ یہاں کمپنی سے پیسے وصول نہیں کئے جارہے بلکہ ان کی سروس استعمال کی جا رہی ہے۔ البتہ اس کو لون (Loan) کا نام نہ دیا جائے کیونکہ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کمپنی قرض دے کر اس پر نفع وصول کر رہی ہے۔^(۴)

①... معجم اوسط، ۲۲۷/۵، حدیث: ۷۱۵۱۔

②... دارالافتاء البسنت۔

③... درمختار کتاب العظرف والاباحۃ، فصل فی البیع، ۶۴۹/۹۔

④... دارالافتاء البسنت۔

سود سے بچنے کے کوئی دو علاج بیان کیجئے؟

جواب: (1) انسان قناعت اختیار کرے، اس طرح وہ مال کی حرص سے بچے گا اور حرام

ذرائع اختیار نہیں کرے گا۔ (2) ہر دم موت کو یاد رکھا جائے، جب یہ سوچ

بن جائے گی کہ مرنا ہے اور موت کا کوئی بھروسا نہیں کب آجائے تو حرام

روزی کی طرف بڑھنے سے رُکنا نصیب ہو جائے گا (ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ)۔⁽¹⁾

کوئی چیز گروی رکھو اگر قرض لیا ہو تو کیا اُس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں؟

جواب: جی نہیں، اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔⁽²⁾

احادیثِ کریمہ میں قرض دینے کے کیا فضائل آئے ہیں؟

جواب: حضور تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ہر قرض

صدقہ ہے۔⁽³⁾ اور یوں ہی ارشاد فرمایا: صدقے کا ثواب دس گنا جبکہ قرض

دینے کا ثواب اٹھارہ گنا ہے۔⁽⁴⁾

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتے تھے نہ قرض کو بہرہ

کرتے اس کی کیا وجہ تھی؟

جواب: امام اہلسنت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى فرماتے ہیں: میرے پندرہ

سوروپے لوگوں پر قرض ہیں، جب قرض دیا یہ خیال کر لیا کہ دے دے تو

① ... حرص، ص ۵۸-۶۵ ماخوذ۔

② ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب بیوع، الباب التاسع عشر فی القرض... الخ، ۳/۲۰۴، ۲۰۳۔

③ ... معجم اوسط، ۲/۳۴۵، حدیث: ۳۴۹۸۔

④ ... ابن ماجہ، کتاب الصدقات، باب القرض، ۳/۱۵۴، حدیث: ۲۴۳۱۔

خیر ورنہ طلب نہ کروں گا۔ جن صاحبوں نے قرض لیا دینے کا نام نہ لیا۔ (پھر فرمایا) جب یوں قرض دیتا ہوں تو ہبہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا: جب کسی کا دوسرے پر دین (یعنی قرض) ہو اور اس کی میعاد گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیہ کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا دین ہے۔^(۱) اس ثوابِ عظیم کے لئے میں نے قرض دیئے، ہبہ نہ کئے کہ پندرہ سو روپے روز میں کہاں سے خیرات کرتا۔^(۲)

مقروض اگر تنگدست ہو تو اسے مہلت دینے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جس کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کی سختیوں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ اُسے نجات بخشے وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔^(۳)

قرض لیتے وقت چیز کی قیمت کم تھی مگر لوٹاتے وقت زیادہ ہو جائے تو کیا اب وہی چیز دینی ہوگی یا کم قیمت شے بھی دے سکتے ہیں؟

جواب قرض کی ادائیگی میں چیز کے سستے اور مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا، وہی چیز واپس کرنی ہوتی ہے۔ لہذا چیز مہنگی ہو جائے یا سستی وہی چیز لوٹائی جائے گی۔^(۴)

①... مسند امام احمد، مسند عمران بن حسین، ۴/۲۲۲، حدیث: ۱۹۹۹۔

②... ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص ۹۱۔

③... مسلم، کتاب المساقاة... الخ، باب فضل انظار المعسر، ص ۸۴۵، حدیث: ۱۵۶۳۔

④... درمختار، کتاب البیوع، باب المراجعة والتولية، فصل فی القرض، ۴/۲۰۸۔

کھانا

کس صورت میں کھانا کھانا فرض ہے؟

جواب: اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اتنا کھالینا جس سے جان بچ جائے فرض ہے اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گنہگار ہوا۔^(۱)

”پیٹ کا قفلِ مدینہ“ کسے کہتے ہیں؟

جواب: اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانا اور حلال خوراک بھی بھوک سے کم کھانا ”پیٹ کا قفلِ مدینہ“ لگانا ہے۔^(۲)

امام غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي نے تندرستی کے لیے کیا ہنما اصول بتایا ہے؟

جواب: حُجَّةُ الْإِسْلَامِ امام محمد بن محمد غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي فرماتے ہیں: ”کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے، جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے وہ ہرگز طبیب کا محتاج نہ ہو گا۔“^(۳)

قیامت کے دن کون لوگ بھوکے ہوں گے؟

جواب: حضور نبی کریم، رُوْفُ رَجِيمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: دنیا میں پیٹ بھر کے کھانے والے کل آخرت میں بھوکے ہوں گے۔^(۴)

۱... درمختار، کتاب العظروالاباحة، ۵۵۹/۹۔

۲... فیضانِ سنت، ص ۶۳۳۔

۳... احیاء العلوم، کتاب آداب الاکل، ۵/۲۔

۴... معجم کبیر، ۲۱۳/۱۱، حدیث: ۱۱۶۹۳۔

پھیٹ بھر کر کھانا کس صورت میں مُسْتَحَب ہے؟

جواب: اس لیے سیر ہو کر کھانا کہ نوافل کثرت سے پڑھ سکے گا اور پڑھنے پڑھانے میں کمزوری پیدا نہ ہوگی، اچھی طرح اس کام کو انجام دے سکے گا یہ مُنْتَذِب ہے۔^(۱)

حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ روزانہ کتنی بار کھانا کھاتے؟

جواب: حضرت سَیِّدُنَا أَبُو سَعِيدِ خُدْرِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: حضور تاجدارِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اگر صبح کو کھانا کھا لیتے تو رات کو نہ کھاتے اور اگر رات کو کھانا کھاتے تو صبح کو تَنَاوُل نہ فرماتے۔^(۲)

کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا مُسْتَحَب طریقہ بیان کریں؟

جواب: سنت یہ ہے کہ قبلِ طعام اور بعدِ طعام دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں، بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں دھولیتے ہیں بلکہ صرف چُنگلی دھونے پر کفایت کرتے ہیں اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔^(۳)

سب سے پہلی بدعت کونسی ظاہر ہوئی؟

جواب: حضرت سَیِّدُنَا عَاشَةُ صَدِيقَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: سلطانِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے وصالِ ظاہری کے بعد سب سے پہلی بدعت (۴) پھیٹ بھر کر کھانے کی پیدا ہوئی جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کے نفس دنیا کی طرف سَرگَش ہو جاتے ہیں۔^(۵)

۱... رد المحتار کتاب الحظر والاباحہ، ۹/۵۶۰۔

۲... بسند الشاہین، الموضن عن عطابین ابی ریح، ۱/۳۷۴، حدیث: ۶۵۰۔

۳... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۳۷۶۔

۴... اس بدعت سے مراد مباح یعنی جائز بدعت ہے۔ ۵... قوت القلوب، الفصل التاسع والثلاثون، ۲/۲۸۳۔

برتن کھانا کھانے والے کے لئے کب استغفار کرتا ہے؟

جواب: رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ

لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ (1)

بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟

جواب: حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ رسول کریم صَلَّى اللهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرماتے ہیں: اُس بھوکے پر حساب کی شدت نہ ہوگی

جس نے (دنیا میں) فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا۔ (2)

حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟

جواب: امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سات یا نو لقموں

سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ (3)

مومن اور کافر و منافق کے کھانے میں کیا فرق ہے؟

جواب: حدیث پاک میں ہے: مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق سات

آنتوں میں کھاتا ہے۔ (4)

دعوت اور مہمان نوازی

حدیث پاک میں مہمان کے اکرام کی اہمیت کس طرح بیان ہوئی ہے؟

1... ترمذی، کتاب الاطعمہ، باب ماجاء فی القمۃ تسقط، ۳/۳۱۵، حدیث: ۱۸۱۱۔

2... البدور السافرة، ص: ۲۱۲۔

3... احیاء العلوم، کتاب کسر الشہوتین، ۳/۱۱۱۔

4... بخاری، کتاب الاطعمہ، باب المؤمن يأکل فی معی واحد، ۳/۵۲۶، حدیث: ۵۳۹۳۔

جواب: رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ عزَّ وَّجَلَّ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اُسے چاہئے کہ (1) وہ مہمان کا اکرام کرے (2) اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے اور (3) وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے۔⁽¹⁾

مہمان کے لیے کونسی چار باتیں ضروری ہیں؟

جواب: (1) جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے (2) جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو (3) صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے اور (4) جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔⁽²⁾

اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟

جواب: ایک صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو میں اس کی مہمانی کروں یا بدلا دوں؟ ارشاد فرمایا: ”بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔“⁽³⁾

کیا مہمان میزبان کے گناہ معاف ہونے کا سبب بھی بنتا ہے؟

جواب: جی ہاں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔⁽⁴⁾

1... مسلم، کتاب الایمان، باب النحر علی اکرام الجار... الخ، ص ۴۲، حدیث: ۷۷۔

2... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۳۹۴۔

3... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی الاحسان والعفو، ۳/۴۰۵، حدیث: ۲۰۱۳۔

4... كشف الخفاء، حرف الضاد المعجمة، ۲/۳۳، حدیث: ۱۶۴۱۔

مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟

جواب: حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔^(۱)

جس کو دعوتِ ولیمہ دی گئی اس کے لیے کیا حکم ہے؟

جواب: دعوتِ ولیمہ کا قبول کرنا سنتِ مُؤَكَّدَہ ہے جبکہ وہاں کوئی گناہ مثلاً گانے باجے کا کام اور کوئی اور شرعی رکاوٹ نہ ہو، قبول کرنے کا معنی وہاں جانا ہے، کھانے نہ کھانے میں اختیار ہے۔^(۲)

سب سے بڑا کھانا کونسا ہے؟

جواب: حضور نبی رحمت، شفیعِ امت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: سب سے بڑا کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جائیں اور غریب محتاج لوگوں کو نہ پوچھا جائے۔^(۳)

دعوتِ ولیمہ کتنے دن ہو سکتی ہے؟

جواب: دعوتِ ولیمہ پہلے دن یا اس کے بعد دوسرے دن بس ان ہی دو دن تک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کی تو وہ سنت نہیں بلکہ رِیَا وَسُمْعَہ (یعنی لوگوں کو دکھانا ستانا ہے)۔^(۴)

حضرت صفیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے ولیمہ میں کیا کھلایا گیا تھا؟

①... ابن ماجہ، کتاب الاطعمہ، باب الضیافۃ، ۲/۴، ۵۲، حدیث: ۳۳۵۸۔

②... فتاویٰ رضویہ، ۲۱/۲، ۶۵۵ ماخوذ۔

③... بخاری، کتاب النکاح، باب من ترک الدعوة... الصحیح، ۳/۴، ۴۵۵، حدیث: ۵۱۷۷۔

④... بہارِ شریعت، حصہ ۱۲، ۳/۳، ۷۶۔

جواب: آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَيْ وَ لِيَسِي فِي سِتْوَاوَر كَجُورِي تَهِيَسِي۔ (1)

بن بلائے دعوت میں جانے والے کے لیے کیا وعید ہے؟

جواب: ایسے شخص کے متعلق حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَايِه فِرْمَانِ هِي:

جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری (یعنی لوٹ مار) کر کے نکلا۔ (2)

دعوت میں بوڑھے اور جوان دونوں ہوں تو پہلے کس کے ہاتھ دھلائے جائیں؟

جواب: کھانے سے قبل جو انوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد پہلے

بوڑھوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، اس کے بعد جو انوں کے۔ (3)

کس صورت میں میزبان کو مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھنا چاہئے؟

جواب: اگر مہمان تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جائے کہ یہی

تقاضائے مَرْوَاتِ هِي وَ اور بہت سے مہمان ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ ان

کی خدمت اور کھلانے میں مشغول ہو۔ (4)

لباس انگوٹھی اور زیور

سوال: کتنا لباس فرض ہے؟

جواب: اتنا لباس جس سے سَتْرِ عَوْرَتِ (5) ہو جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے

1... ترمذی، کتاب النکاح، باب ماجاء فی الولیمة، ۳۳۹/۲، حدیث: ۱۰۹۷۔

2... ابو داؤد، کتاب الاطعمه، باب ماجاء فی اجابة الدعوة، ۳/۲۷۹، حدیث: ۳۷۲۱۔

3... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۳۷۶۔

4... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۳۹۳۔

5... بدن کا جو حصہ چھپانا فرض ہے اُسے چھپانے کو "سَتْرِ عَوْرَتِ" کہتے ہیں، مرد کے لیے اس کی مقدار ناف کے نیچے سے

فرض ہے۔ (1)

ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کی کیا وعید ہے؟

حضور نبی ﷺ، شفیع اُمّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کپڑا ٹخنے سے

نیچے ہو وہ آگ میں ہے اور اللہ عزّ وجلّ قیامت کے دن اس شخص کی طرف

نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا۔ (2)

کپڑوں میں دامن اور آستین کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟

سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے

زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو۔ (3)

نابالغ لڑکوں کو ریشمی کپڑے پہنانے کا حکم بیان کریں؟

نابالغ لڑکوں کو بھی ریشم کے کپڑے پہنانا حرام ہے اور گناہ پہنانے والے پر ہے۔ (4)

کیا ریشم کا لحاف اوٹھ سکتے ہیں؟

ریشم کا لحاف اوٹھنا جائز ہے کہ یہ بھی لبس (پینے) میں داخل ہے۔ (5)

اُون اور بالوں کے کپڑے سب سے پہلے کس نے پہنے؟

گھٹنوں کے نیچے تک ہے جبکہ عورت کے لیے سارا بدن چھپانا ضروری ہے سوائے منہ کی ٹنگی، دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے نیز سر کے لٹکتے بالوں، گردن اور کلائیوں کا چھپانا بھی فرض ہے۔ (بہار شریعت، حصہ ۳، ۱/۳۸۱ ملخصاً)

1... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۲۰۹۔

2... ابوداؤد، کتاب اللباس، باب فی قدر موضع الاذان، ۸۲/۲، حدیث: ۴۰۹۳۔

3... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۲۰۹۔

4... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۲۱۵۔

5... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۲۱۱۔

جواب ﴿ اُن اور بالوں سے بنے کپڑے سب سے پہلے حضرت سیدنا سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے پہنے۔ (1)

سوال رحمتِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی انگوٹھی کا نگینہ کس طرف ہوتا تھا؟
جواب حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی انگوٹھی کا مُقَدَّس نگینہ ہتھیلی کی طرف ہوتا تھا۔ (2)

سوال انگوٹھی کس کے لیے سنت ہے؟
جواب جن کو مُہر کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے سلطان، قاضی اور علماء جو فتویٰ پر مُہر کرتے ہیں۔ (3)

سوال کس رنگ کے لباس کو حدیثِ پاک میں بہتر کہا گیا ہے؟
جواب سفید رنگ کے لباس کو۔ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک و ستھرے ہیں اور انہیں میں اپنے مُردے کفنناؤ۔ (4)

سوال مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟
جواب صرف چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگینے والی جائز ہے جو وزن میں ساڑھے چار ماشہ سے کم ہو۔ بغیر نگینے کی یا ایک سے زیادہ نگینے کی انگوٹھی اگرچہ چاندی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے۔ (5)

1... بہارِ شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۳۱۶۔

2... مسلم، کتاب اللباس، باب فی خاتمہ الورق فصہ حبشی، ص ۱۱۶۰، حدیث: ۲۰۹۴۔

3... بہارِ شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۴۲۷۔

4... مسند احمد، حدیث سمر بن جندب، ۷/۲۶۰، حدیث: ۲۰۱۷۴۔

5... بہارِ شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۴۲۶-۴۲۸، مُخَصَّصاً وَامْتِظَاً۔

سوال: کیا لڑکوں کے کان چھدوانا اور اس میں بالی پہنانا جائز ہے؟

جواب: لڑکوں کے کان چھدوانا اور اس میں بالی پہنانا جائز ہے۔⁽¹⁾

سوال: گھنگرو کے متعلق حدیث شریف میں کیا ارشاد ہوا؟

جواب: حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔“⁽²⁾

زینت

سوال: کیا چھوٹے لڑکوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا سکتے ہیں؟

جواب: چھوٹے لڑکوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا جائز ہے۔⁽³⁾

سوال: کیا مرد اپنے کان چھدوا کر اس میں زیور پہن سکتا ہے؟

جواب: مردوں کا اپنے کان چھدوانا اور اس میں زیور پہننا دونوں ناجائز ہیں۔⁽⁴⁾

سوال: عورتوں کا ناک، کان چھدوانا فرض ہے واجب ہے یا سنت؟

جواب: نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت صرف مباح (یعنی جائز) ہے۔ ہاں اچھی نیت ہو

تو کارِ ثواب ہے۔⁽⁵⁾

سوال: عورت کو زیبائش و آرائش کے لئے مٹی سیاہ (دنداسہ) لگانا کیسا ہے؟

①... رد المحتار کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی البیج، ۹/۲۹۳۔

②... ابوداؤد، کتاب الخاتم، باب ما جاء فی خاتم الذهب، ۴/۱۲۱، حدیث: ۲۲۲۲۔

③... رد المحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی اللبس، ۹/۵۹۹۔

④... رد المحتار، کتاب الحظر والاباحۃ، فصل فی البیج، ۹/۲۹۳۔

⑤... فتاویٰ رضویہ، ۲۳/۴۸۳، ملخصاً۔

جواب مہی کسی رنگ کی ہو عورتوں کو علاج دندان (دانتوں کے علاج کے لئے) یا شوہر کے واسطے آرائش کے لئے مُطَلَقاً جائز بلکہ مُسْتَحَب ہے۔ صرف حالتِ روزہ میں لگانا منع ہے۔ (1)

جواب کیا عورت جوڑا باندھ سکتی ہے؟

جواب جی ہاں باندھ سکتی ہے۔ (2)

جواب عورت کا اپنے شوہر کے لئے بناؤ سنگار کرنا کیسا؟

جواب اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: عورت کا اپنے شوہر کے لئے گہنا (زیور) پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعثِ اجرِ عظیم اور اس کے حق میں نمازِ نفل سے افضل ہے۔ (3)

جواب مرد کا اپنی بیوی کے لئے جمال اختیار کرنا کیسا؟

جواب حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: بلاشبہ میں اپنی بیوی کے لئے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لئے بناؤ سنگھار کرتی ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں وہ تمام حُقُوق اچھی طرح حاصل کروں جو میرے اُس پر ہیں اور وہ بھی اپنے حُقُوق حاصل کرے جو اس کے مجھ پر ہیں۔ (4)

جواب کیا مردِ دَنَانہ یا عورتیں مردانہ کپڑے یا جوتے پہن سکتے ہیں؟

1... فتاویٰ رضویہ، ۲۳/۲۸۹۔

2... فتاویٰ رضویہ، ۷/۲۹۸ ماخوذ۔

3... فتاویٰ رضویہ، ۲۲/۱۲۶۔

4... تفسیر قرطبی، پ ۲، البقرة، تحت الآية: ۲۲۸، ۲/۹۶۔

جواب: جی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے زنانے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔^(۱)

سُرمہ کب لگانا سنت ہے؟

جواب: حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: سنت یہ ہی ہے کہ رات کو سوتے وقت سُرمہ لگائے۔ دن میں سُرمہ لگانا جمعہ کی نماز کے لئے، عیدین کے لئے سنت ہے، یوں ہی عاشورہ کے دن اور روزانہ شب کو سنت ہے۔^(۲)

مرد اور عورت کی خوشبو میں کیا فرق ہونا چاہیے؟

جواب: حدیث مبارکہ میں ہے: مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو۔^(۳)

کیا مکان میں جاندار کی تصویر آویزاں کر سکتے ہیں؟

جواب: جی نہیں، مکان میں جاندار کی تصویر آویزاں کرنا ناجائز ہے۔^(۴)

میلااد شریف کی خوشی میں نیز اجتماعِ میلااد کیلئے زیب و زینت اختیار کرنا کیسا ہے؟

جواب: جائز زینت اختیار کرنا از خود جائز ہے اور اگر پیارے آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ

①... مستند امام احمد، مستند ابی یزید، ۳/۱۳۳، حدیث: ۷۸۶۰۔

②... مرآة المناجیح، ۶/۱۸۰۔

③... ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی طیب الرجال والنساء، ۲/۳۶۱، حدیث: ۲۷۹۶۔

④... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب العشرون فی الزینۃ، ۵/۳۵۹۔

وَسَلَّمَ كِي وِلادَت باسعادَت كِي خوشي اور آپ كے مبارك ذكر كِي تعظيم كِي نيت سے هو پھر تو اس عمل كا مُستحب هونا واضح هے۔^(۱) علما فرماتے هیں: بھلائی كے كاموں ميں خرچ كرنے ميں كوئی اسراف نهیں۔ جس چيز كے ذريعه سركار صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كے ذكر كِي تعظيم مقصود هو وه هرگز ممنوع نهیں هو سكتي۔^(۲)

بيٹھنے سونے اور چلنے كے آداب

كسي كے آنے پر اُسكے بيٹھنے كيلئے جگه كشاده كرنے كِي كيا فضيلت هے؟

جواب حضرت ابو موسیٰ اشعري رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روايت هے: رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمايا: جب كوئی شخص كسي قوم كے پاس آئے اور اس كِي خوشنودى كے ليے وه لوگ جگه ميں وسعت كر ديں تو اللهُ عَزَّ وَجَلَّ پر حق هے كه ان كو راضى كرے۔^(۳)

كس طرح كِي چھت پر سونے كِي ممانعت هے؟

جواب حضرت جابر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروى هے كه حضور رحمتِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ايسى چھت پر سونے سے منع فرمايا جس پر مُنڈير (ديوار كِي آڑ) نه هو۔^(۴)

قيلولة كرنا كس كے ليے مُستحب هے؟

جواب صدر الشريعه مفتي محمد امجد على اعظمي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ التَّوَلَّى فرماتے هیں: غالباً يه ان

۱... فتاوى رضويه ۲۶/۵۵۳، ملخصاً۔

۲... ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصه اول، ص ۱۷۴، ملخصاً۔

۳... كنز العمال، الجزء التاسع، كتاب الصحبة، قسم الاقوال، حق المجالس والجلوس، ۵/۵۸، حديث: ۲۵۳۷۰۔

۴... ترمذی، كتاب الادب، باب ۴، ۲/۳۸۸، حديث: ۲۸۶۳۔

لوگوں کے لیے ہو گا جو شب بیداری کرتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے، ذکرِ الہی کرتے ہیں یا کتبِ نبی میں مشغول رہتے ہیں کہ شب بیداری میں جو مکان ہوا قبیلوں سے دفع ہو جائے گا۔^(۱)

کس طرح لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے؟

جواب: حدیث شریف میں ہے: پیٹ کے بل لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔^(۲)

سونے کا مُستحب طریقہ بیان کیجئے؟

جواب: سونے میں مُستحب یہ ہے کہ باطہات سوائے اور کچھ دیر دہنی گروٹ پر دہنے

ہاتھ کو زخما کے نیچے رکھ کر قبلہ رُوسوائے پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر۔^(۳)

سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیئے؟

جواب: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا۔^(۴)

جاگنے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیئے؟

جواب: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلَيْهِ النُّشُوْرُ۔^(۵)

صبح اٹھ کر کس بات کا پکا ارادہ کرنا چاہیئے؟

جواب: صبح اٹھنے، دعا پڑھنے اور یادِ خدا کرنے کے بعد اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ

تقویٰ و پرہیزگاری کرے گا کسی کو ستائے گا نہیں۔^(۶)

①... بہارِ شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۲۳۵۔

②... ابن ماجہ، کتاب الادب، باب النہی عن الاضطجاع علی الوجہ، ۲/۱۱۲، حدیث: ۳۷۲۳۔

③... بہارِ شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۲۳۶۔

④... بخاری، کتاب الدعوات، باب وضع ید الیمنی تحت الخد الایمن، ۲/۱۹۲، حدیث: ۶۳۱۳۔

⑤... ابوداؤد، کتاب الدعاء، باب ما یقول عند النوم، ۲/۵۰۵، حدیث: ۵۰۹۶۔

⑥... بہارِ شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۲۳۶، مُخَصَّصاً۔

کون کون سے اوقات میں سونا مکروہ ہے؟

جواب: دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ (۱)

عصر کے بعد سونے والے کو حدیث پاک میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟

جواب: حدیث پاک میں ہے: جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے

تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ (۲)

کیا نمازِ عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟

جواب: بعد نمازِ عشاء علمی گفتگو، مسئلہ پوچھنا یا جواب دینا یا مسئلہ کی تحقیق و تفتیش کرنا

ایسی گفتگو سونے سے افضل ہے جبکہ جھوٹے قصے کہانی کہنا، منسخرہ پن اور ہنسی

مذاق کی باتیں مکروہ ہیں البتہ میاں بیوی کا باہم یا مہمان سے انسیت کے لیے

کلام کرنا جائز ہے اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکرِ الہی کرے اور تسبیح و

استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ (۳)

راہ چلنے کے آداب بیان کیجئے؟

جواب: راہ چلنے میں تمام تر امور کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، بیچ راہ میں چلنے سے بچنا چاہیے،

پریشان نظری (ادھر ادھر دیکھنے) سے بچتے ہوئے، نگاہیں نیچی کئے پڑو قار طریقے

سے چلنا چاہئے، نیز راستے میں خلاف تہذیب اور ناپسندیدہ کام کرنے سے بھی

بچنا چاہیے۔ (۴)

①... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۲۳۶۔

②... مسند ابی یعلیٰ، مسند عائشہ رضی اللہ عنہا، ۲/۲۷۸، حدیث: ۲۸۹۷۔

③... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۲۳۶، ملخصاً۔

④... 163 مدنی پھول، ص ۶، ملخصاً۔

سلام اور مصافحہ

سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے؟

جواب: وہ سلام ہے۔ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: کیا میں تمہیں

ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو! وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ۔^(۱)

سوال: سلام کرنے میں کیا نیت ہونی چاہئے؟

جواب: سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال

اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔^(۲)

سوال: کیا سلام اسی مسلمان کو کرے جسے پہچانتا ہے؟

جواب: نہیں! بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرے چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔^(۳)

سوال: سلام کے جواب میں تاخیر کرنا کیسا؟

جواب: سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، بلا عذر تاخیر کی تو گناہگار ہوگا، جو اب کے

ساتھ ساتھ تو بہ بھی کرنی ہوگی صرف جواب سے گناہ معاف نہ ہوگا۔^(۴)

سوال: کیا نخط میں لکھے سلام کا جواب بھی واجب ہے اور وہ کس طرح دیا جائے؟

۱... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان أنه لا یدخل الجنة الا المؤمنون... الخ، ص ۷۷، حدیث: ۹۳۔

۲... درمختار وورد المحتار، کتاب العظرو الإباحة، فصل فی البیع، ۹/ ۲۸۲۔

۳... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/ ۲۵۹۔

۴... درمختار وورد المحتار، کتاب العظرو الإباحة، فصل فی البیع، ۹/ ۲۸۳۔

جواب ﴿﴾ خط میں لکھے ہوئے سلام کا بھی جواب دینا واجب ہے اور اس کے جواب کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ زبان سے جواب دے، دوسری صورت یہ ہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے مگر چونکہ سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے اور خط کا جواب فوراً ہی نہیں لکھا جاتا عموماً کچھ تاخیر ہو جاتی ہے لہذا زبان سے جواب فوراً دے دے تاکہ تاخیر کا گناہ نہ ہو۔^(۱)

﴿﴾ کون سے اوقات میں سلام کرنا سنت ہے؟

جواب ﴿﴾ حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ فرماتے ہیں: تین وقت سلام کرنا سنت ہے: گھر میں آنے کی اجازت چاہتے وقت، ملاقات کے وقت اور رخصت کے وقت۔^(۲)

﴿﴾ اگر خالی گھر میں جانا ہو تو کس طرح سلام کرنا چاہیے؟

جواب ﴿﴾ حضرت عزم و بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَقَّار فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں کہو: اَلسَّلَامُ عَلٰی النَّبِیِّ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ۔ حضرت علامہ علی قاری حنفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی نے فرمایا: یہ اس لیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں حضور رحمتِ عالم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے۔^(۳)

①... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۴۶۳، ملخصاً۔

②... مراۃ المناجیح، ۲/۳۰۴۔

③... شفاء، فصل فی المواطن التي يستحب... الخ، الجزء الثانی، ص ۶۷۔

شرح الشفاء، فصل فی المواطن التي يستحب... الخ، ۲/۱۱۸۔

سلام کے جواب میں ”وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ کہنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟

جواب: حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ۔ حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ جب وہ شخص بیٹھ گیا تو ارشاد فرمایا: ”وس نیکیاں ہیں۔“ پھر دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کی: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اسے بھی سلام کا جواب دیا۔ وہ بیٹھ گیا تو ارشاد فرمایا: ”بیس نیکیاں ہیں۔“ پھر ایک اور شخص نے حاضر ہو کر عرض کی: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”تیس نیکیاں ہیں۔“ (۱)

انگلی یا ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا کیسا ہے؟

جواب: انگلی یا ہتھیلی سے سلام کرنا ممنوع ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا اور ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرنا نصاریٰ کا طریقہ ہے۔ (۲)

مصافحہ کا سنت طریقہ کیا ہے؟

جواب: اس طرح مصافحہ کرنا سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کیڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ (۳)

۱... ابو داؤد، کتاب الادب، باب کیف السلام، ۴/۲۴۹، حدیث: ۵۱۹۵۔

۲... ترمذی، کتاب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في كراهية اشارة اليد بالسلام، ۴/۳۱۹، حدیث: ۲۷۰۴۔

۳... رد المحتار، کتاب الحظر والاباحة، باب الاستبراء وغيره، ۹/۲۲۹۔

ملاقات کے وقت کیا جانے والا کونسا عمل مغفرت کا سبب بنتا ہے؟

جواب: فرمانِ مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہے: ”جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مُصافِحہ کرتے ہیں تو اُن دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اُن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔“ (1)

ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟

جواب: حضور نبیِ کَرَم، شَفِيعِ مُعْظَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں: (1) جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے (2) جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو (3) جب وہ دعوت دے تو قبول کرے (4) جب اس سے ملے تو سلام کرے (5) جب وہ چھینکے تو جواب دے اور (6) حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ (2)

چھینک اور جمہای

حدیث شریف میں چھینک کی کیا فضیلت اور جمہای کی کیا مذمت آئی ہے؟

جواب: حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبیِ اَكْرَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند اور جمہای ناپسند ہے۔ (3)

دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟

1... ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی المصافحة، ۴/۴۵۳، حدیث: ۵۲۱۲۔

2... نسائی، کتاب الجنائز، باب النهی عن سب الاموات، ص ۳۲۸، حدیث: ۱۹۳۵۔

3... بخاری، کتاب الادب، باب اذا تناوب فليضع يده على فيه، ۲/۱۶۳، حدیث: ۲۲۲۶۔

جواب ﴿﴾ حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چھینک آئی۔ (1)

﴿﴾ چھینک آنے کے بعد حمد کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب ﴿﴾ چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت ہے۔ (2)

﴿﴾ چھینک کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟

جواب ﴿﴾ چھینک کا جواب دینا واجب ہے جبکہ چھینکنے والا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے اور اس کا جواب

بھی فوراً دینا ہوتا ہے اور اتنا آواز میں جواب دے کہ وہ سن لے واجب ہے

جس طرح سلام کے جواب میں ہے یہاں بھی ہے۔ (3)

﴿﴾ ایک مجلس میں اگر کئی بار چھینک آجائے تو کیا ہر مرتبہ جواب دینا ہوتا ہے؟

جواب ﴿﴾ ایک مجلس میں اگر کسی کو کئی بار چھینک آئے تو صرف تین مرتبہ جواب دینا

ہے، ایک مرتبہ واجب، دوبارہ مُسْتَحَب ہے، اس کے بعد اختیار ہے جواب دے

یا نہ دے۔ (4)

﴿﴾ چھینکنے والے سے پہلے سننے والا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہہ دے تو کیا فضیلت ہے؟

جواب ﴿﴾ حدیثِ پاک میں آیا ہے کہ ایسا شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور بد بھضی سے

محفوظ رہے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ (5)

1... ترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب: ۱، ۲۴۱/۵، حدیث: ۳۳۷۹۔

2... حاشیہ طحطاوی، مقدمہ، ص ۷، ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص ۳۱۹۔

3... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۳۷۶۔ رد المحتار کتاب العطر والاباحہ، فصل فی البیع، ۹/۶۸۳۔

4... فتاویٰ بزازیہ، کتاب الکراہیۃ، نوع فی السلام، ۶/۳۵۵۔

5... معجم اوسط، ۲۲۴/۶، حدیث: ۱۴۱۔ المقاصد الحسنہ، حرف المیم، ص ۲۲۰، حدیث: ۱۱۳۰۔

چھینکتے وقت کیا کرنا چاہئے؟

جواب چھینک کے وقت سر جھکالے اور مونہ چھپالے اور آواز کو پست کرے، چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔^(۱)

جہاں ایک سے زائد افراد ہوں تو کتنے لوگ چھینک کا جواب دیں؟

جواب چھینک کا جواب بعض حاضرین نے دیدیا تو سب کی طرف سے ہو گیا اور بہتر یہ ہے کہ سب حاضرین جواب دیں۔^(۲)

جماہی شیطان کو کیوں پسند ہے؟

جواب کیونکہ جماہی کی وجہ سے عبادات میں چستی نہیں رہتی اور غفلت آتی ہے اسی لیے شیطان کو یہ پسند ہے۔^(۳)

جب کسی کو جماہی آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟

جواب منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے، حدیث پاک میں ہے: جب کسی کو جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔^(۴)

جماہی کو روکنے کا طریقہ بیان کیجیے؟

جواب جماہی آئے تو منہ بند کیے رہے اور نہ رُکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے۔ جماہی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہم السلام

①... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۷۸۔

②... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۷۷۔

③... مرقاة المفاتیح، کتاب الآداب، باب العطاس والتأؤب، ۸/۲۹۲، تحت الحدیث: ۷۳۲۔

④... مسلم، کتاب الزہد، باب تشمیت العاطس... الخ، ص ۱۵۹، حدیث: ۲۹۹۵۔

کو جمہای نہیں آتی تھی۔ (1)

اگر نماز میں کسی کو جمہای آئے اور ہاتھ کے ذریعے روکے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے تو کیا کرے؟

قیام میں داہنے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے اور غیر قیام میں بائیں کی پشت سے یا دونوں میں آستین سے۔ (2)

زیارتِ قبور

عزیز و اقارب کی قبروں پر جانے کے لئے بہتر آیام کون سے ہیں؟

جمعہ یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے، سب میں افضل روز جمعہ وقت صبح ہے۔ (3)

قبر والوں کو سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ کر کے اس طرح سلام کہئے: اَلْسَّلَامُ عَلَیْكُمْ
يَا اَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآخِرِ۔ (4)

اگر قبرستان کا راستہ قبریں مٹھا کر کے بنایا گیا ہو تو اس پر چلنا کیسا؟

قبرستان میں قبریں مٹا کر (جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے) (5) بلکہ نئے

1... بہار شریعت، حصہ ۱، ۳/۵۳۸۔

2... بہار شریعت، حصہ ۱، ۳/۵۳۸۔

3... بہار شریعت، حصہ ۱، ۴/۸۲۸۔

4... ترمذی، کتاب الجنائز، باب ما یقول الرجل اذا دخل المقابر، ۲/۳۲۹، حدیث: ۱۰۵۵۔

5... ودالمختار، کتاب الطہارة، مطلب: القول مرجح علی الفعل، ۱/۶۱۲۔

راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ (1)

گھر سے فاتحہ پڑھ کر ایصال کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا قبرستان جا کر؟

جواب: قبرستان میں جا کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ زیارتِ قبور بھی سنت ہے

اور وہاں پڑھنے میں اموات (مردوں) کا دل بھی بہلتا ہے اور جہاں قرآن مجید

پڑھا جائے رحمتِ الہی اترتی ہے۔ (2)

قبر کو سجدہ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: قبر کو سجدہ تعظیبی کرنا حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ (3)

کیا قبر پر اگر بتی یا موم بتی جلا سکتے ہیں؟

جواب: قبر پر اگر بتی یا موم بتی نہ جلائی جائے کہ یہ آگ ہے اور قبر پر آگ رکھنے سے

میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانا مقصود ہو تو قبر کے

پاس خالی جگہ پر اگر بتی لگا سکتے ہیں۔ (4)

مزار پر کس طرح حاضری دی جائے؟

جواب: مزار شریف پر قدموں کی طرف سے حاضر ہو اور چہرے کے سامنے کم از کم چار

ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو اور درمیانی آواز میں سلام عرض کرے: اَلْسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ پھر درودِ غوثیہ (5) تین بار، سورہ فاتحہ

1... درمختار کتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ۱۸۳/۳۔

2... فتاویٰ رضویہ، ۹/۶۰۹۔

3... فتاویٰ رضویہ، ۲۲/۴۲۳، ماخوذ۔

4... فتاویٰ رضویہ، ۹/۵۲۵، ۲۸۲، ماخوذ۔

5... درودِ غوثیہ یہ ہے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّغْدِنِ الْجُوْدِ اَنْكَرِهِ وَاٰلِهِ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ۔

و آیت الکرسی ایک ایک بار، سورہ اخلاص اور درودِ غوثیہ سات سات بار پڑھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرے کہ الہی! اس پڑھائی پر مجھے اپنے کرم کے مطابق ثواب دے اور اسے میری طرف سے صاحبِ مزار کو نذر پہنچا، پھر اپنی جائز طلب کے لیے صاحبِ مزار کی روح کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر سلام کر کے واپس آجائے۔^(۱)

کیا مزاراتِ اولیاء پر حاضری دینے کے ارادے سے سفر کرنا جائز ہے؟

جواب بالکل جائز ہے کیونکہ وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں۔^(۲) زیارتِ قبور کا حکم تو حدیثِ پاک میں دیا گیا ہے۔ رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: میں نے تم کو زیارتِ قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔^(۳) اور حضورِ نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خود بھی ہر سال شہدائے غزوہٴ اُحد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔^(۴)

مزارات پر غلط کام ہوتے ہوں تو کیا حاضری ترک کر دی جائے؟

جواب علامہ سید محمد امین ابنِ عابدین شامی نے امام ابنِ حجر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا کے حوالے سے لکھا ہے: مزار پر کوئی مُتکَرِّرِ شَرَعِی (ناپسندیدہ کام) ہو مثلاً عورتوں سے اختلاط (مکراؤ، میل جول) وغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے کہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا بلکہ اسے بُرا جانے اور ممکن ہو تو

۱... فتاویٰ رضویہ، ۵۲۲/۹، ملخصاً۔

۲... رد المحتار کتاب الصلاة، مطلب فی زیارة القبور ۱/۷۸۔

۳... مسلم، کتاب الجنائز، باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم... الخ، ص ۲۸۶، حدیث: ۹۷۷۔

۴... مصنف عبدالرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور ۳/۳۸۱، حدیث: ۲۷۵۔

بُری بات کو ختم کرے۔^(۱)

مزار پر پھول ڈالنا اور مزار کو بوسہ دینا کیسا ہے؟

جواب قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر ہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل

بہلے گا۔^(۲) اور امام اہلسنت اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: مزار کو نہ

باتھ لگائے نہ بوسہ دے۔^(۳)

کیا اسلامی بہنیں مزارات پر حاضری دے سکتی ہیں؟

جواب اسلامی بہنیں مزارات پر نہ جائیں بلکہ گھر سے ہی ایصالِ ثواب کر دیا کریں۔

عورت جب گھر سے قبور کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور

فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے اور جب واپس آتی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت میں

ہوتی ہے۔^(۴)

دعوتِ اسلامی کی ”مجلس مزاراتِ اولیا“ کس مقصد سے بنائی گئی ہے؟

جواب یہ مجلس حتی المقدور صاحبِ مزار کے عرس کے موقع پر اجتماعِ ذکر و نعت

کرتی ہے۔ مزار شریف کے احاطے میں (بالخصوص عرس کے دنوں میں) سنتوں

بھرے مدنی حلقے لگاتی ہے جن میں وضو، غسل، تیمم اور نماز کا طریقہ نیز سنتیں

سکھائی جاتی ہیں اور عاشقانِ رسول کو باجماعت نماز کی ادائیگی، دعوتِ اسلامی

①... ردالمحتار، کتاب الصلاة، مطلب فی زیارة القبور، ۳/۸۷۱۔

②... ردالمحتار، کتاب الصلاة، مطلب فی وضع الجریدون نحو الآس علی القبور، ۳/۱۸۲، ماخوذاً۔

③... فتاویٰ رضویہ، ۹/۵۲۲۔

④... غنیة المسلمی، فصل فی الجنائز، ص ۹۴، ملقطاً۔

کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت، درسِ فیضانِ سنت دینے یا سننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔^(۱)

قرآن کریم (فضائل و معلومات)

قرآن پاک کے کتنے اور کونسے مشہور نام ہیں؟

قرآن عظیم کے کثیر اَسْمَاء ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرف کی دلیل ہیں، ان میں سے چھ مشہور اَسْمَاء یہ ہیں: (۱) قرآن (۲) بُرہان (۳) فُرْقان (۴) کتاب (۵) مُصْحَف (۶) نور۔^(۲)

قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی فضیلت بیان کریں؟

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے: جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اُسے میں اُس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ویسی ہی ہے جیسی اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کی فضیلت اسکی مخلوق پر ہے۔^(۳)

قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟

جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کیلئے دس نیکیاں ہیں۔^(۴)

وہ کونسا خوش نصیب ہے جو اپنے گھر کے دس افراد کی شفاعت کرے گا؟

۱... مزارات اولیاء کی حکایات، ص ۳۱، ملخصاً۔

۲... صراط الجنان، ۱/۱۱۔

۳... ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب: ۲۵، ۴/۲۵، حدیث: ۲۹۳۵۔

۴... مستدرک حاکم، کتاب فضائل القرآن، باب القرآن مآدبہ اللہ... الع، ۲/۲۵۶، حدیث: ۲۰۸۲۔

جواب جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا۔ اس کے گھر والوں میں سے دس شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔^(۱)

جواب حدیث پاک میں کس سینے کو ویران مکان کی طرح قرار دیا گیا ہے؟

جواب سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔^(۲)

جواب زبان آسانی سے نہ چلنے کے باعث رُک رُک کر تکلیف کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو کتنا اجر ملتا ہے؟

جواب ایسے شخص کو دو گنا ثواب ملتا ہے۔^(۳)

جواب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے تیار کردہ مصاحف (یعنی قرآن پاک) کی تعداد کتنی تھی؟

جواب امام اہلسنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان عَلَيهِ رَحْمَةُ الْمَلَائِكَةِ فتاویٰ رضویہ، جلد 26، صفحہ 449 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے سات مصحف تحریر فرمائے۔ ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ میں بھیج دیا جبکہ ایک مدینہ مُنَوَّرَہ میں رکھ لیا۔^(۴)

①... ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل قارئ القرآن، ۴/۱۲، حدیث: ۲۹۱۴۔

②... ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ۱۸، ۴/۱۹، حدیث: ۲۹۲۲۔

③... مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضل الماهر بالقرآن... الخ، ص ۲۰۰، حدیث: ۷۹۸۔

④... اتقان فی علوم القرآن، النوع الثامن عشر، ۱/۱۸۹۔

قرآنِ کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟

جواب: قرآنِ کریم میں 26 نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں۔^(۱)

قرآنِ پاک میں کس واقعے کو اَحْسَنُ الْقَصَصِ سب سے اچھا بیان کہا گیا؟

جواب: سورہ یوسف میں حضرت یوسف عَلَیْهِ السَّلَام کے واقعے کو اَحْسَنُ الْقَصَصِ (سب سے اچھا بیان) کہا گیا۔^(۲)

قرآنِ پاک میں مبارک درخت کس درخت کو کہا گیا ہے؟

جواب: زیتون کے درخت کو۔^(۳)

ان سوریوں کی تعداد اور نام بتائیں جن کی صِرَاحَتِ قرآنِ پاک میں خاص طور پر موجود ہے؟

جواب: وہ چار ہیں: (۱) اُونُٹ^(۴) (۲) گھوڑا (۳) فخر اور (۴) گدھا۔^(۵)

قرآنِ کریم میں کن لوگوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی عجیب نشانی فرمایا ہے؟

جواب: اصحابِ کہف کو۔^(۶)

آیات اور سورتوں کی معلومات

قرآنِ پاک کی کون سی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں؟

① ... روح البیان، پ ۲۲، المؤمن، تحت الآية: ۷۸، ۷۸/۸-۲۱

② ... پ ۱۲، یوسف: ۳-

③ ... پ ۱۸، النور: ۵۳-

④ ... پ ۳۰، الغاشیة: ۷-۱

⑤ ... پ ۱۴، النحل: ۸-

⑥ ... پ ۱۵، الکہف: ۹-

جواب: سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں۔^(۱)

قرآن پاک کی کونسی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟

جواب: سب سے آخر میں سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا

تُزْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۱﴾
(پ ۳، البقرہ: ۲۸۱) ترجمہ کنز الایمان: اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف

پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔^(۲)

سورہ رحمن میں ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ سَأَلْتُمُونِي﴾ کتنی مرتبہ آیا ہے؟

جواب: اکتیس (31) بار آیا ہے۔

کس آیت میں امت محمدیہ کو سب سے بہتر امت فرمایا گیا ہے؟

جواب: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۱۰) ترجمہ کنز الایمان: تم بہتر ہو ان
سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے
منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

وہ کونسی سورت ہے جو ایک ہی رات میں مکمل نازل ہوئی تھی؟

جواب: سورۃ انعام جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔^(۳)

وہ کونسی پہلی سورت ہے جس کا رسول کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اعلان

۱... بخاری، کتاب النفس، باب سورۃ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ۳/۳۸۲، حدیث: ۴۹۵۳۔

۲... تفسیر خازن، پ ۳، البقرہ، تحت الآیة: ۲۸۱، ۱/۲۱۹۔

۳... تفسیر خازن، سورۃ الانعام، ۲/۲۔

فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے روبرو پڑھی؟

جواب ﴿سورۃ النجم﴾ (۱)

وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نام آیا ہے؟

جواب ﴿سورۃ الجادلہ﴾

کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟

جواب ﴿سورۃ یسین شریف﴾ (۲)

کس سورت کی تلاوت کرنے کی فضیلت چوتھائی قرآن کے برابر ہے؟

جواب ﴿حدیث پاک میں ہے: جس نے سورت قُلْ يَا كَافِرُونَ پڑھی تو گویا کہ اس

نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی﴾ (۳)

رات کے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے؟

جواب ﴿حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے

قدموں، سینے، پیٹ یا پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو یہ سب اعضاء

کہیں گے تیرے لئے ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں

سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا﴾ (۴)

﴿حدیث پاک میں کس سورت کو ہر مرض کے لئے شفا کہا گیا ہے؟﴾

① ... تفسیر قرطبی، سورۃ النجم، ۶۱/۹۔

② ... ترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل یس، ۴/۶۰۶، حدیث: ۲۸۹۶۔

③ ... معجم صغیر، باب الالف، من اسمہ احمد، ص ۶۱، الجزء الاول، حدیث: ۱۶۵۔

④ ... مستدرک حاکم، کتاب التفسیر، المانع من عذاب القبر سورۃ الملک، ۳/۳۲۲، حدیث: ۳۸۹۲۔

جواب ﴿ سورة فاتحہ، حدیث پاک میں ہے: سورة فاتحہ ہر مرض کے لئے شفا ہے۔ (1)

ہر بڑی چیز سے حفاظت کیلئے کونسی سورتوں کی تعلیم فرمائی گئی ہے؟

جواب ﴿ نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: صبح شام تین تین بار ”قُلْ هُوَ

اللہُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ پڑھو! ان کی تلاوت

کرنا تمہیں ہر بڑی چیز سے بچائے گا۔ (2)

انبیاء کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام

﴿ حضرت آدم عَلَیْہِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کی چار خاص فضیلتیں بتائیے؟

جواب ﴿ (1) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَیْہِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کو اپنے دستِ قدرت سے تخلیق

فرمایا (2) ان میں اپنی طرف کی خاص مُعَزَّز روح پھونکی (3) فرشتوں کو ان کے

حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا (4) انہیں دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ (3)

﴿ حضرت آدم عَلَیْہِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کی عمر مبارک کتنی تھی؟

جواب ﴿ حضرت آدم عَلَیْہِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کی عمر شریف ایک ہزار سال تھی۔ (4)

﴿ حضرت ادریس عَلَیْہِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کا نام کیا ہے؟

جواب ﴿ آپ عَلَیْہِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کا نام اَحْمُوخ ہے اور کُتُبِ الرِّیِّہِ کی کثرتِ درس کے باعث

1... دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحۃ الكتاب، ۵۳۸/۲، حدیث: ۳۳۷۰۔

2... نسائی، کتاب الاستعاذۃ، باب، ص ۸۶۲، حدیث: ۵۴۳۸۔

3... پ ۱۴، الحجر: ۲۹، بخاری، کتاب التفسیر، سورة البقرۃ، باب قول اللہ: وعلّم آدم... الخ، ۱۶۴/۳، حدیث: ۲۴۷۶۔

4... ترمذی، کتاب التفسیر، باب المعوذتین، باب سنہ، ۲۴۱/۵، حدیث: ۳۳۷۹۔

آپ کا نام اور لیس ہوا۔ (1)

حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کتنے سال تک قوم کو تبلیغ فرماتے رہے؟

جواب: حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ

فرماتے رہے۔ (2)

سر مبارک کٹ جانے کے باوجود کون سے نبی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حق بیان کرتے رہے؟

جواب: حضرت یحییٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ (3)

سب سے پہلے زہ کس نبی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے بنائی؟

جواب: حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے۔ (4)

حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی وفات کا کس طرح پتہ چلا؟

جواب: آپ عَلَيْهِ الصَّلَامُ حسبِ عادت نماز کے لئے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہوئے اور

اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے پورے ایک سال بعد تک

جنت آپ کی وفات پر مُطَّلَع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے یہاں

تک کہ بحکمِ الہی دیمک نے آپ کا عصا کھالیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے

سہارے سے قائم تھا زمین پر آیا، اس وقت جنت کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ (5)

1... خزائن العرفان، پ ۱۶، مریم، تحت الآیة: ۵۶، ص ۵۷۷، ملتقطاً۔

2... خزائن العرفان، ہود، تحت الآیة: ۲۶، ص ۲۲۱۔

3... تاریخ ابن عساکر، حرف الباء، ذکر من اسمہ یحییٰ، ۸۱۳۵-یحییٰ بن زکریا... الخ، ۶۲/۲۱۵۔

4... تفسیر مدارک، پ ۲۲، سبأ، تحت الآیة: ۱۱، ص ۹۵۔

5... تفسیر خازن، پ ۲۲، سبأ، تحت الآیة: ۱۴، ۵۱۹/۳، خزائن العرفان، پ ۲۲، سبأ، تحت الآیة: ۱۴، ص ۹۵۔

وہ کونسے میزبان ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے؟

جواب: حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام۔ (1)

”أُولُو الْعَرْصِ“ رُسُلٌ عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کونسے ہیں؟

جواب: وہ پانچ ہیں: (1) حضرت نوح عَلَیْہِ السَّلَام (2) حضرت ابراہیم عَلَیْہِ السَّلَام (3)

حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام (4) حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اور (5) پیارے آقا صَلَّ

اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ۔ (2) سب میں افضل ہمارے آقا و مولیٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ صَلَّ

اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ہیں، حضور صَلَّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے بعد سب سے

بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عَلَیْہِ السَّلَام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ عَلَیْہِ

السَّلَام، پھر حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اور حضرت نوح عَلَیْہِ السَّلَام کا، یہ پانچوں

حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و ملک و جن و جمیع مخلوقات الہی سے

افضل ہیں۔ (3)

کس نبی عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی دعا سے ان کے بھائی کو نبوت ملی۔

جواب: حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام نے دعا کی کہ یارب میرے گھر والوں میں

سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ دعا قبول

فرمائی اور حضرت ہارون عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کو آپ کی دعا سے نبی کیا۔ (4)

1... تفسیر خازن، پ ۱۲، بود، تحت الآیة: ۶۹، ۳/۶۱-۳۔

2... تفسیر طبری، پ ۲۶، الاحقاف، تحت الآیة: ۳۵، ۳۵/۱۱-۳۰۳۔

3... بہار شریعت حصہ ۱، ۵۲/۱-۵۳۔

4... خزائن العرفان، پ ۱۶، مریم، تحت الآیة: ۵۳، ص ۵۷۷۔

وہ کونسے نبی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کی خبر دی؟

جواب: حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ (1)

حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے کچھ معجزات بتائیں؟

جواب: مُردے زندہ کرنا، اندھے اور برص والے کو اچھا کرنا، پرند پیدا کرنا، غیب کی خبر دینا وغیرہ۔ (2)

حُسْنِ اخْلَاقٍ

کن باتوں کو دنیا و آخرت کے بہتر اخلاق فرمایا گیا ہے؟

جواب: حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی مکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد

فرمایا: ”کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے اچھے اخلاق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا: ”جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔“ (3)

اخلاقِ مُضْطَلَّهٖ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے متعلق حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟

جواب: ایک مرتبہ کسی نے اُمّ المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے حضور نبی

① ۱۶۰۰، ۱، ۳۰۔

② ... خزائن العرفان، پ ۱، البقرة، تحت الآية: ۸۷، ص ۳۰۔

③ ... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۶/۳۱۲، حدیث: ۸۳۰۰۔

پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اخلاقِ کریمہ کے بارے میں پوچھا تو ارشاد فرمایا: ”آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا خُلُقِ قرآن ہے (1)۔ کیا تم نے قرآن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان نہیں پڑھا: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (پ ۲۹، القلم: ۴) ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔“ (2)

حُسنِ اخلاق کا سرچشمہ کیا ہے؟

جواب: اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَتُنَا عَائِشَةُ صَدِيقَتُهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا فرمان ہے: رَأْسُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ الْحَيَاءُ یعنی حُسنِ اخلاق کا سرچشمہ حیا ہے۔ (3)

اچھے اخلاق گناہوں پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟

جواب: رحمتِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اچھے اخلاق گناہوں کو ایسے پگھلا دیتے ہیں جیسے سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔“ (4)

حُسنِ اخلاق والا مومن کس کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے؟

جواب: حدیثِ پاک میں ہے: ”مؤمن اچھے اخلاق کی بدولت دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔“ (5)

خادموں کو روزانہ کتنی بار معاف کر دینا چاہیے؟

1... یعنی حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قرآنِ کریم میں بیان کردہ تمام آداب و احکام اور اخلاق و اچھائیوں

کے پیکر تھے۔ (النهاية في غريب الحديث والادب، باب الخاء مع اللام، ۱۷/۲)

2... بسند احمد، بسند عائشة، ۳۸۰/۹، حدیث: ۲۴۶۵۵۔

3... مکارم الاخلاق لابن ابی الدنيا، باب ذکر العیاء و ما جاء فیہ، ص ۶۲۔

4... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، ۲۴۷/۶، حدیث: ۸۰۳۶۔

5... ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی حسن الخلق، ۳۳۲/۴، حدیث: ۴۷۹۸۔

جواب: بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! اہم خادم کو کتنی بار معاف کر دیا کریں تو حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: دن میں 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو (یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو)۔^(۱)

سوال: کیا اخلاق کے اچھا ہونے کے لیے کوئی دعا بھی ہے؟

جواب: جی ہاں، حُسنِ اخلاق کے پیکر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاحْسِنْ خُلُقِيْ۔ اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! تو نے میری صورت کو اچھا کیا پس میرے اخلاق کو بھی اچھا فرما۔^(۲)

سوال: انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟

جواب: بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”اچھے اخلاق۔“^(۳)

سوال: سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟

جواب: حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل تقویٰ اور حُسنِ اخلاق ہے۔^(۴)

سوال: کونسی چار خوبیاں ہوں تو کسی دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟

جواب: حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سَیِّدُنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

①... ابو داؤد، کتاب الادب، باب ماجاء فی حق المملوک، ۴/۲۳۹، حدیث: ۵۱۶۲۔

②... بسند احمد، بسند عبد اللہ بن مسعود، ۲/۶۶، حدیث: ۳۳۶۷۔

③... معجم اوسط، ۱/۱۱۷، حدیث: ۳۶۷۔

④... ابن ماجہ، کتاب الزیاد، باب ذکر الذنوب، ۴/۲۸۹، حدیث: ۲۲۲۶۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ارشاد فرمایا: ”اگر تم میں چار خوبیاں ہوں تو دنیا کی کسی شے کا فوت ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا: (1) امانت کی حفاظت (2) سچ بولنا (3) حسنِ اخلاق اور (4) پاکیزہ کھانا۔“ (1)

حدیثِ پاک میں میزانِ عمل میں سب سے وزنی عمل کسے کہا گیا ہے؟

جواب: حُسنِ اخلاق۔ (2)

حُسنِ اخلاق کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟

جواب: ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: یا رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ! میرے حُسنِ اخلاق کا زیادہ حق دار کون ہے؟ ارشاد فرمایا: ”تمہاری ماں۔“
دوبارہ عرض کی: پھر کون؟ ارشاد فرمایا: ”تمہاری ماں۔“ تیسری بار عرض کرنے پر بھی یہی ارشاد فرمایا۔ چوتھی مرتبہ عرض کی: پھر کون؟ تو ارشاد فرمایا: ”تمہارا باپ، پھر قریب والے کا زیادہ حق ہے پھر جو اس کے بعد قریبی ہو۔“ (3)

خوفِ خدا

خوفِ خدا کا مطلب کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبر جائے تو اسے خوفِ خدا کہتے ہیں۔ (4)

1... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۲/۵۹۲، حدیث: ۶۶۲۴۔

2... الادب المفرد، باب حسن الخلق، ص ۹۱، رقم: ۲۷۳۔

3... بخاری، کتاب الادب، باب ابن احق الناس بحسن الصحبة، ۴/۹۳، حدیث: ۵۹۷۱۔

4... خوفِ خدا، ص ۱۴۰۔ احیاء العلوم، کتاب الخوف والرجاء، ۴/۱۹۱، ماخوذ آ۔

جوبار گاہِ الہی میں کھڑا ہونے سے ڈرے اُس کے لیے کیا انعام ہے؟

جواب ﴿اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَلَسَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۝﴾ (پ ۲۷، الرحمن:

۴۶) ترجمہ کنزالایمان: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔

حکمت کا سرچشمہ کیا ہے؟

جواب حدیثِ پاک میں ہے: ”حکمت کا سرچشمہ خوفِ خدا ہے۔“ (1)

خوف کا کم سے کم درجہ کون سا ہے؟

جواب خوف کا کم سے کم درجہ جس کا اثر اعمال میں ظاہر ہو یہ ہے کہ بندہ اُن تمام کاموں سے باز آجائے جو شرعاً ممنوع ہیں۔ (2)

سب سے کامل عقل والا کون ہے؟

جواب حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سب سے کامل عقلمند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف رکھنے والا ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جن چیزوں کے کرنے کا اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اچھی طرح غور کرنے والا ہو۔“ (3)

جو دنیا میں بے خوف رہا آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟

جواب حدیثِ پاک میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے دل

1... شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، ۱/۴۰، حدیث: ۷۴۳۔

2... احیاء العلوم، کتاب الخوف والرجاء، ۴/۱۹۲۔

3... مسند حارث، کتاب الادب، باب ما جاء فی العقل، ۲/۸۰۴، حدیث: ۸۲۰۔

میں دو خوف اور دو آمن جمع نہیں کروں گا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں اُسے قیامت کے دن ڈراؤں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرا تو میں اُسے قیامت کے دن بے خوف کر دوں گا۔^(۱)

خوفِ خدا سے روٹنے کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب حدیثِ پاک میں ہے: جب اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے خوف سے بندے کے روٹنے کھڑے ہو جائیں تو اُس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔^(۲)

وہ کون ہیں کہ خوفِ خدا کے سبب اُن کے سینے کی گڑ گڑاہٹ ایک میل سے سنائی دیتی تھی؟

جواب حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا ابراہیم خَلِيلُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوفِ خدا کے سبب گڑیہ وزاری سے سینے میں ہونے والی گڑ گڑاہٹ ایک میل کے فاصلے سے سنائی دیتی۔^(۳)

وہ کون ہیں کہ خوفِ خدا میں بکثرت رونے کے سبب اُن کا لقب ہی اُن کا نام ہو گیا؟

جواب حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ حکیم الأُمّت مفتی احمد یار خان نعیمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اپنے گناہوں پر نُوحہ کرنا (رونا) عینِ عبادت ہے، حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ خوفِ

① ... زهد لابن مبارک، باب ماجاء فی الخشوع والخوف، ص ۵۰، حدیث: ۱۵۔

② ... شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، ۱/ ۲۹۱، حدیث: ۸۰۳۔

③ ... احیاء العلوم، کتاب الخوف والرجاء، ۴/ ۲۲۴۔

خدا میں اتاروتے تھے کہ آپ کا لقب ہی نُوح ہو گیا ورنہ آپ کا نام یَشْکُر ہے۔^(۱)

خوفِ خدا کے سبب رونے کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟

جواب حضور سرورِ کونین صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس مؤمن

بندے کی آنکھ سے خوفِ خدا کے باعث مکھی کے پَر برابر آنسو چہرے پر بہہ

نکلے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کو دوزخ پر حرام فرمادیتا ہے۔“^(۲)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کو کون سے دو قطرے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟

جواب حدیثِ پاک میں ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کو خوفِ خدا میں بہنے والے آنسو کا قطرہ

اور راہِ خدا میں بہنے والے خون کا قطرہ سب سے زیادہ پسند ہے۔“^(۳)

قیامت میں کونسی چار آنکھیں نہیں روئیں گی؟

جواب مروی ہے کہ قیامت میں چار آنکھوں کے سوا تمام آنکھیں روئیں گی: (۱) وہ

آنکھ جو دنیا میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خوف سے روئی (۲) وہ آنکھ جو جہاد میں زخمی

ہوئی۔ (۳) وہ آنکھ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ چیزوں سے جھکی رہی اور (۴) وہ

آنکھ جو (عبادت میں) راتوں کو جاگتی رہی۔^(۴)

صلہ رحمی

صلہ رحمی کیا ہے؟

۱... مراۃ المناجیح، ۲/۵۰۵۔

۲... ابن ماجہ، کتاب الزیاد، باب الحزن والیبکاء، ۴/۶۷، حدیث: ۴۱۹۷۔

۳... ترمذی، کتاب فضائل الجہاد، باب ماجاء فی فضل المرابط، ۳/۲۵۳، حدیث: ۱۶۷۵۔

۴... کنز العمال، کتاب المواعظ... الخ، الباب الاول، الفصل الرابع، ۸/۳۶۸، الجزء: ۱۵، حدیث: ۴۳۴۶۱۔

جواب ﴿صلہ رحم کے معنی رشتہ کو جوڑنا ہے یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔﴾^(۱)

قرآن کریم میں صلہ رحمی سے متعلق کیا ارشاد ہوا؟

جواب ﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ط﴾

(پ ۴، النساء: ۱) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور

رشتوں کا لحاظ رکھو۔

﴿صلہ رحمی اور قطع رحمی کا شریعت میں کیا حکم ہے؟﴾

جواب ﴿صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے۔﴾^(۲)

﴿صلہ رحمی کرنے کی بعض صورتیں بیان کیجئے؟﴾

جواب ﴿رشتہ داروں کو ہدیہ و تحفہ دینا اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت درکار ہو تو

اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس

اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔﴾^(۳)

﴿رشتہ داری توڑنے والے کی کیا سزا ہے؟﴾

جواب ﴿رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں (ابتداءً) داخل نہیں ہوگا۔﴾^(۴)

﴿حدیث قدسی میں صلہ رحمی کے متعلق کیا آیا ہے؟﴾

جواب ﴿حدیث قدسی میں ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رحم (یعنی رشتہ داری) سے فرمایا: جو تجھے

①... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۵۵۸۔

②... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۵۵۸۔

③... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۵۵۸۔

④... بخاری، کتاب الادب، باب اتم القاطع، ۲/۹۷، حدیث: ۵۹۸۴۔

ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔^(۱)

حدیث پاک میں صلہٴ رحمی کی کیا فضیلت آئی ہے؟

جواب حضور تاجدار نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جسے پسند ہو کہ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُس کی عمر دراز کرے، اُس کے رزق میں اضافہ کرے اور اُس سے

بُری موت کو دور فرمائے تو اُسے چاہئے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے ڈرے اور صلہٴ رحمی

(رشتہ داروں سے حُسن سلوک) کرے۔^(۲)

رشتہ دار کو صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: رشتہ دار پر کئے جانے والے

صدقے کا ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے۔^(۳)

صلہٴ رحمی کے فائدے بیان کیجئے؟

جواب (۱) اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی رضا حاصل ہوتی ہے (۲) لوگوں کی خوشی کا سبب ہے

(۳) مسلمان اس شخص کی تعریف کرتے ہیں (۴) شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے

(۵) عمر بڑھتی ہے (۶) رزق میں برکت ہوتی ہے اور (۷) آپس میں محبت بڑھتی ہے۔^(۴)

کیا بدلے کے طور پر حُسن سلوک کرنے والا بھی صلہٴ رحمی کرنے والا ہے؟

جواب جی نہیں، حدیث پاک میں ہے: بدلہ دینے والا صلہٴ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلہٴ

۱... بخاری، کتاب الادب، باب بن وصل وصلہ اللہ، ۹۸/۴، حدیث: ۵۹۸۸۔

۲... مسند ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب بن سردان یدفع عنہ بیتۃ السوء... الخ، ۵/۲۲۲، حدیث: ۳۶۲۲۔

۳... معجم کبیر، یحییٰ بن ایوب المصری... الخ، ۸/۲۰۷، حدیث: ۷۸۳۳۔

۴... پچھو بھی سے ہاتھوں ہاتھ صلح کر لی، ص ۶۶، ماخوذاً۔

رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ (1)

کیا قطعِ رحمی کرنے والا قوم کے لئے بھی نقصان دہ ہوتا ہے؟

جواب: جی ہاں، مروی ہے: اس قوم پر رحمتِ الہی کا نزول نہیں ہوتا جس میں قاطعِ رحم ہو۔ (2)

جن رشتہ داروں کے ساتھ صلہٴ رحمی واجب ہے وہ کون ہیں؟

جواب: بعض علما نے فرمایا: وہ ذُورحمِ محرم ہیں اور بعض نے فرمایا: ”اس سے مراد ذورحم (3) ہیں، محرم ہوں یا نہ ہوں۔“ اور ظاہر یہی قولِ دوم ہے۔ (4)

صبر و شکر

صبر کسے کہتے ہیں؟

جواب: نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو صبر کہلاتا ہے۔ (5)

صبر کی کتنی اقسام ہیں؟

1... بخاری، کتاب الادب، باب لیس الواصل بالمکافئ، ۹۸/۴، حدیث: ۵۹۹۱۔

2... معجم کبیر، خطبہ ابن مسعود من کلامہ، ۱۵۸/۹، حدیث: ۸۷۹۳۔

3... جن کا رشتہ بذریعہ ماں باپ کے ہو اسے ”ذی رحم“ کہتے ہیں، یہ تین طرح کے ہیں: ایک باپ کے قرابت دار جیسے دادا، دادی، چچا، پھوپھی وغیرہ، دوسرے ماں کے جیسے نانا، نانی، ماموں، خالہ، آنٹیانی بھائی (یعنی جن کا باپ الگ ہو اور ماں ایک ہو) وغیرہ، تیسرے دونوں کے قرابت دار جیسے حقیقی بھائی بہن۔ (تفسیر نعیمی، ۱/۴۹۷)

4... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۵۵۸۔

5... تفسیر صراط الجنان، پ ۲، البقرة، تحت الآیة: ۱۵۳، ۱/۲۴۶۔

جواب: بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں: (1) بدنی صبر جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ (2) طبعی خواہشات اور ان کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابلِ تعریف ہوتا ہے لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔⁽¹⁾

جواب: کس صبر کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے؟

جواب: تکلیفِ دہ فعل جو شرعاً ممنوع ہے اس پر صبر کی ممانعت ہے۔ مثلاً کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاٹا جائے تو اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا، یونہی کوئی شخص شہوت سے مغلوب ہو کر بڑے ارادے سے اس کے گھر والوں کی طرف بڑھے تو اس کی غیرت بھڑک اٹھے لیکن غیرت کا اظہار نہ کرے اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر صبر کرے، شریعت نے اس صبر کو حرام قرار دیا ہے۔⁽²⁾

جواب: کس چیز سے صبر کرنا ہر آدمی پر فرض ہے؟

جواب: ممنوعاتِ شرعیہ سے صبر کرنا (رکنا) ہر آدمی پر فرض ہے۔⁽³⁾

جواب: شکر کسے کہتے ہیں؟

جواب: کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا شکر کہلاتا ہے۔⁽⁴⁾

1... احیاء العلوم، کتاب الصبر والشکر، ۲/۸۲۔

2... احیاء العلوم، کتاب الصبر والشکر، ۲/۸۵۔

3... احیاء العلوم، کتاب الصبر والشکر، ۲/۸۵۔

4... تفسیر صراط الجنان، پ، الفاتحہ: تحت الآیۃ: ۱، ۴۳۔

﴿﴾ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟

﴿﴾ جواب: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔^(۱)

﴿﴾ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کیا وعدہ فرمایا ہے؟

﴿﴾ جواب: اللہ تعالیٰ نے بندوں کے شکر پر نعمت میں اضافے کا وعدہ فرمایا۔ ارشادِ باری

تعالیٰ ہے: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (پ ۱۳، ابراہیم: ۷) ترجمہ کنز الایمان: اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔

﴿﴾ اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز کس بات سے کریں گے؟

﴿﴾ جواب: حجۃ الاسلام امام محمد غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوَالِی فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جنت

والوں کی گفتگو کے آغاز میں ”شکر“ کو رکھا ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ صَدَقْنَا وَوَعَدَاکَ﴾ (پ ۲۳، الزمر: ۷) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا۔^(۲)

﴿﴾ نعمت کا اظہار کرنا کیسا ہے؟

﴿﴾ جواب: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت کا اظہارِ اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے۔ حضور نبیؐ

کریم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اُس کی نعمت ظاہر ہو۔^(۳)

﴿﴾ کیا عید میلاد النبی صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم منانا بھی شکر گزاری ہے؟

①... خزائن العرفان، پ ۲، البقرة، تحت الآیة: ۱۷۲۔

②... احیاء العلوم، کتاب الصبر والشکر، ۹۹/۲۔

③... ترمذی، کتاب الادب، ۲/۳، حدیث: ۲۸۲۸۔

سوال: جی ہاں، صدرُ الْاَفَاضِلِ نَعِيم الدین مرادی آبادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اَنْهَادِی فرماتے ہیں: عیدِ میلادِ منانا جائز ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی یادگار و شکر گزاری ہے۔^(۱)

سوال: بندے کو کب ”شکر کرنے والا“ کہا جائے گا؟

جواب: بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کا استعمال فرمانبرداری میں کرے تو شکر کرنے والا ہو گا کیونکہ اپنے مالک و مولیٰ عَزَّوَجَلَّ کی مرضی کے موافق کام کیا اور اگر اس کی نافرمانی میں استعمال کرے تو ناشکر کہلائے گا۔^(۲)

سوال: حدیثِ پاک میں کھا کر شکر ادا کرنے والے کے لئے کیا فرمایا گیا ہے؟

جواب: حدیثِ پاک میں ہے: کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔^(۳)

توبہ و استغفار

سوال: توبہ کس چیز کا نام ہے؟

جواب: توبہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کا نام ہے۔^(۴)

سوال: توبہ کا کیا حکم ہے؟

①... خزائن العرفان، پ ۶، المائدۃ، تحت الآیۃ: ۳، ص ۲۰۸ ماخوذاً۔

②... احیاء العلوم، کتاب الصبر والشکر، ۱۰۹/۲۔

③... ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب: ۴۳، ۲۱۹/۲، حدیث: ۲۴۹۴۔

④... احیاء العلوم، کتاب التوبۃ، ۳/۲۔

جواب: ﴿جوں ہی گناہ صادر ہو فوراً توبہ کر لینا واجب ہے خواہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔﴾ (1)

جواب: ﴿کفر سے توبہ کب تک قبول ہے؟﴾

جواب: ﴿جب تک روح گلے تک نہ آجائے قبول ہے۔﴾ (2)

جواب: ﴿توبہ کے ارکان کتنے ہیں؟ اُن کی وضاحت کیجئے؟﴾

جواب: ﴿توبہ کے تین رکن ہیں: (1) اعترافِ جرم (2) ندامت (3) عزم ترک

(یعنی اس گناہ کو ترک کر دینے کا پکا ارادہ) اگر گناہ قابلِ تلافی ہو تو اُس کی تلافی

(یعنی نقصان کا بدلہ) بھی لازم مثلاً تارکُ الصَّلَاةِ (یعنی بے نمازی) کیلئے پچھلی نمازوں

کی قضا بھی لازم ہے۔﴾ (3)

جواب: ﴿توبہ میں تاخیر کا کیا نقصان ہے؟﴾

جواب: ﴿آدمی گناہ کو مُقَدَّم کرتا ہے اور توبہ کو مُؤَخَّر، یہی کہتا رہتا ہے: اب توبہ کروں گا، اب

عمل کروں گا، یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور وہ اپنی بدیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔﴾ (4)

جواب: ﴿حضرت لقمان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے بیٹے کو توبہ کے متعلق کیا نصیحت فرمائی؟﴾

جواب: ﴿حضرت سَيِّدُنَا لقمان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَلَائِكَةِ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے جانِ پدَر! توبہ

میں تاخیر نہ کرنا کیونکہ موت اچانک آجاتی ہے جو توبہ کی طرف سبقت نہیں

کرتا اور آج کل پر ٹالتا رہا وہ بڑے خطرات میں مبتلا ہو گا۔﴾ (5)

1... شرح نووی، ج: ۱، ۵۹/۹۔

2... ابن ماجہ، ۴/۹۲، حدیث: ۲۲۵۳۔ سرفاۃ المفاتیح، ۵/۱۷۴، تحت الحدیث: ۲۳۲۳۔

3... غیبت کی تباہ کاریاں، ص: ۲۹۹۔ خزائن العرفان، پ: ۱، البقرة، تحت الآیة: ۳۷، ص: ۱۶۔

4... خزائن العرفان، پ: ۲۹، القیامہ، تحت الآیة: ۵، ص: ۱۰۷۔

5... احیاء العلوم، کتاب التوبہ، ۲/۱۵۔

توبہ کس پر لازم ہے؟

جواب: توبہ ہر فرد بشر پر لازم ہے۔^(۱)

ہر فرد بشر کو توبہ کا حکم کیوں ہے؟

جواب: کیونکہ کوئی آدمی قصور سے خالی نہیں، جب آدمی اعضاء کے گناہ سے محفوظ

رہے تو دل کے ارادے سے نہیں بچتا، اگر دل میں بھی ارادہ نہ ہو تو وسوسہ

شیطان سے نہیں بچ پاتا کہ وہ خیالات دل میں ڈالتا رہتا ہے جن سے یادِ الہی میں

غفلت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب نقصان ہی ہیں، اصل نقصان کسی طریقے

سے ہو ہر ایک میں موجود ہے، البتہ مقدار نقصان میں فرق ہے۔^(۲)

بابرکت جگہوں میں جا کر توبہ کرنا کیسا ہے؟

جواب: مقاماتِ مُبْتَرَّکہ جو رحمتِ الہی کے مُورِد (اترنے کی جگہ) ہوں وہاں توبہ کرنا اور

طاعت بجالانا ثمراتِ نیک (اچھا نتیجہ) اور مُرُوعَتِ قبول (جلدی قبول ہونے) کا

سبب ہوتا ہے۔^(۳)

کیا توبہ سے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟

جواب: جی ہاں! گناہ خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جب بندہ ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ

تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان سب کو معاف فرماتا ہے۔^(۴)

①... احیاء العلوم، کتاب التوبہ، ۱۱/۳، ۱۲۔

②... احیاء العلوم، کتاب التوبہ، ۱۲/۳۔

③... خزائن العرفان، پ، ا، البقرۃ، تحت الآیۃ: ۵۸، ص ۲۱۔

④... خزائن العرفان، پ، ۹، الاعراف، تحت الآیۃ: ۱۵۳، ص ۳۱۹۔

کیا توبہ و استغفار سے عمر بڑھتی اور رزق وسیع ہوتا ہے؟

جواب: جی ہاں! اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا درازی عمر (لمبی زندگی) و کشائش

رزق (رزق میں وسعت) کے لئے بہتر عمل ہے۔^(۱)

سچی توبہ کی علامت کیا ہے؟

جواب: سچی توبہ وہ ہے جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی

طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب (بچا) رہے۔^(۲)

علم کے فضائل

حدیث شریف میں علم کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے؟

جواب: حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔^(۳)

ہر مسلمان پر کتنا علم سیکھنا فرض ہے؟

جواب: ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اُس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے

سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کیلئے مسائلِ حلال و حرام بھی سیکھنا

فرض ہے۔ نیز مسائلِ علمِ قلب یعنی فرائضِ قلبیہ (باطنی فرائض) مثلاً

عاجزی و اخلاص اور توکل وغیرہا اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور باطنی

① ... خزائن العرفان، پ ۱۱، ہود، ص ۴۱۵، تحت الآية: ۳۔

② ... خزائن العرفان، پ ۲۸، التحريم، ص ۱۰۳۸، تحت الآية: ۸۔

③ ... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، ۱/۱۲۶، حدیث: ۲۲۲۔

گناہ مثلاً تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہا اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فریضہ سے ہے۔^(۱)

علم حاصل کرنے کی بہترین عمر کیا ہے؟

علم حاصل کرنے کی بہترین عمر جوانی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہیں بھیجتا مگر اس حال میں کہ وہ جوان ہوتا ہے اور کسی کو جو علم دیا جاتا ہے اس کے لئے بہتر زمانہ یہ ہے کہ وہ جوان ہو۔^(۲)

علم کی طلب میں نکلنے والے کی کیا فضیلت ہے؟

اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے حبیب، حبیبِ لیبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنے لوٹنے تک راہِ خدا میں ہے۔^(۳)

انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کی میراث کیا ہے اور ان کے وارث کون ہیں؟

حدیثِ پاک میں ہے: بے شک علما حضراتِ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کے وارث ہیں اور حضراتِ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام درہم و دینار کا نہیں علم کا وارث بناتے ہیں تو جس نے اسے لیا اُس نے بہت بڑا حصہ پالیا۔^(۴)

عالمِ دین کی توہین کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟

①... فتاویٰ رضویہ، ۲۳/۶۲۴ طحطا۔

②... الفقیہ والمفتیہ، باب النفقہ فی الحدانہ... الخ، ۲/۱۷۷، رقم: ۸۱۴۔

③... ترمذی، کتاب العلم، باب فضل طلب العلم، ۳/۲۹۴، حدیث: ۲۶۵۶۔

④... ابوداؤد، کتاب العلم، باب الحث علی طلب العلم، ۳/۲۴۲، حدیث: ۳۶۲۱۔

جواب: اگر عالم کو اس لئے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیوی خصوصیت کے باعث برا کہتا ہے گالی دیتا تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق فاجر ہے اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض القلب خبیث الباطن ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔^(۱)

سوال: حدیث پاک میں عالم کی گستاخی پر کیا وعید آئی ہے؟

جواب: حضور مَعلَم کائنات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: تین آدمیوں کی تحقیر نہیں کرتا مگر منافق: ایک وہ جسے اسلام میں بڑھاپا آیا، دوسرا علم والا اور تیسرا عادل بادشاہِ اسلام۔^(۲)

سوال: کس کی تعظیم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تعظیم ہے؟

جواب: حضور تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: بوڑھے مسلمان، قرآن میں تجاوز نہ کرنے والے عالم اور انصاف کرنے والے بادشاہِ اسلام کی تعظیم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے۔^(۳)

سوال: کس علم کی آرزو کرنی چاہیے؟

جواب: حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: علم نافع کی آرزو کرو اور بے فائدہ علم سے پناہ مانگو۔^(۴)

①... فتاویٰ رضویہ، ۱۲۹/۲۱۔

②... معجم کبیر، عبید اللہ بن زحر... الخ، ۲۰۲/۸، حدیث: ۷۸۱۹۔

③... ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی تنزیل الناس منازلہم، ۳۴۴/۴، حدیث: ۴۸۴۳۔

④... ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب ما تعود منه رسول اللہ، ۲۷۰/۴، حدیث: ۳۸۴۳۔

عالم کی عابد پر فضیلت کے بارے میں کوئی روایت بیان کریں؟

جواب: نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنیٰ شخص پر ہے۔^(۱)

کونسا علم مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے؟

جواب: حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ مُنْقَطِع ہو جاتا ہے لیکن تین عمل مُنْقَطِع نہیں ہوتے صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے۔^(۲)

عالم کی زیارت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: عالم کی زیارت کرنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا اور اس کے ساتھ کھانا عبادت ہے۔^(۳)

والدین اور ان کے حقوق

حدیث شریف میں والدین سے حُسنِ سلوک کی اہمیت کیا بیان ہوئی ہے؟

جواب: مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں۔^(۴) یعنی ان کو راضی رکھنے

①... ترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ، ۴/۳۱۳، حدیث: ۲۶۹۴۔

②... مسلم، کتاب الوصیہ، باب ما یلحق الانسان... الخ، ص ۸۸۶، حدیث: ۱۶۳۱۔

③... فردوس الاخبان، ۲/۳۷۵، حدیث: ۷۱۱۹۔

④... ابن ماجہ، کتاب الادب، باب بر الوالدین، ۴/۱۸۶، حدیث: ۳۶۶۲۔

سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مُسْتَحِق ہو گے۔ (1)

بپ کی نافرمانی کرنے کی کیا وعید ہے؟

جواب: بپ کی نافرمانی کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی نافرمانی کرنا۔ حدیث پاک

میں ہے: ”مَعْصِيَةُ اللَّهِ مَعْصِيَةُ الْوَالِدِ یعنی باپ کی نافرمانی اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی

نافرمانی ہے۔“ (2)

اولاد پر ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟

جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: باپ کا حق نہایت

عظیم ہے اور ماں کا حق اس سے بھی عظیم۔ ماں باپ کے حق کے حوالے سے

علمائے کرام نے یوں تقسیم بیان فرمائی ہے کہ ”خدمت میں ماں کو ترجیح حاصل

ہے اور تعظیم میں باپ کو۔“ (3)

ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو تو اولاد کس کا ساتھ دے؟

جواب: ماں باپ میں اگر لڑائی ہو تو نہ ماں کا ساتھ دے نہ باپ کا، ان دونوں میں سے

جو مَعْصِيَت (یعنی گناہ و خطا) پر ہو اسے سمجھائے اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ورنہ

سُکوت (یعنی خاموشی اختیار) کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ (4)

والدین کے وصال کے بعد اولاد پر اُن کے کیا حقوق ہیں؟

1... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۵۵۳۔

2... معجم وسط، من اسمہ احمد، ۱/۶۱۳، حدیث: ۲۲۵۵۔

3... فتاویٰ رضویہ، ۲۳/۳۸۷-۳۹۰، ماخوذاً۔

4... رد المحتار، کتاب الحدود، بطلب فی تعزیر المنہم، ۶/۱۲۵۔

جواب: (1) سب سے پہلا حق ان کا غسل و کفن اور نمازِ جنازہ و دفن ہے (2) اُن کے لیے ہمیشہ دعا و استغفار کرنا (3) صدقہ و خیرات و اعمالِ صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا (4) ان پر کسی کا قرض ہو تو ادا میں انتہائی جلدی کرنا اور اس کام کو اپنے دین و دنیا کیلئے باعثِ سعادت سمجھنا (5) اُن کا کوئی فرض رہ گیا ہو تو بقدر استطاعت اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا (6) اُن کی طرف سے کی گئی ایسی وصیت جو شرعاً جائز ہو اور اسے پورا کرنا اس پر لازم نہ ہو اگرچہ اس پر گراں ہو پھر بھی اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا (7) اگر کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھنا (8) ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر اتنی آواز سے بیس شریف کی تلاوت کرنا کہ وہ سنیں پھر انہیں ایصالِ ثواب کرنا جمعہ کے علاوہ بھی جب ان کی قبر کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کرنا اور ان کے لئے فاتحہ خوانی کرنا (9) اُن کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرتے رہنا (10) اُن کے دوستوں کے ساتھ دوستی نباہنا اور ان کے ساتھ ہمیشہ عزت و تکریم سے پیش آنا (11) کسی کے والدین کو بُرا کہہ کر جو اباً انہیں بُرا نہ کہلاوانا (12) سب سے اہم حق جس کی ہر ایک کو ہمیشہ سختی کے ساتھ تاکید ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں ایذا نہ پہنچانا کیونکہ والدین کو اس کے تمام اعمال کی خبر پہنچتی ہے۔ (1)

والدین سے لڑنے، انہیں مارنے اور بُرا بھلا کہنے والے کا کیا حکم ہے؟

جواب: ایسا شخص بہت بڑا فاسق، بڑا ہی بد بخت اور اللہ ربُّ العالمین کے سخت غضب

اور بڑے عذاب کا مُسْتَحَقُّ اور دوزخ کی آگ کا حقدار ہے۔^(۱)

اگر بیٹا ملک سے باہر ہو اور والدین اسے بلائیں تو اس کیلئے کیا حکم ہے؟

جواب: اگر بیٹا ملک سے باہر ہو اور والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، صرف خط لکھنا کافی نہ ہوگا، اسی طرح اگر والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔^(۲)

والدہ کے پاؤں چومنے کی حدیث میں کیا فضیلت آئی ہے؟

جواب: حدیث پاک میں ہے: ”جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوگھٹ کو بوسہ دیا۔“^(۳)

والدین کو نظرِ رحمت سے دیکھنے کا کیا ثواب ہے؟

جواب: حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظرِ رحمت کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حجِ مُبَرَّک و زُور کا ثواب لکھتا ہے۔^(۴)

کیا کافر والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے گی؟

①... فتاویٰ رضویہ، ۲۴/۲۴۲، ۲۴۲/۲۴۲

②... رد المحتار، کتاب العظروالاباحۃ، فصل فی البیح، ۲۷۸/۹۔

③... درمختار، کتاب العظروالاباحۃ، ۲۰۶/۹۔

④... مشکاۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب البر والصلۃ، الفصل الثالث، ۲۰۹/۲، حدیث: ۲۹۲۲۔

جواب ﴿جی ہاں! حضرت سیدتنا آسماء بنت ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتی ہیں کہ زمانہ نبوی میں میرے پاس میری والدہ آئی جبکہ وہ مُشْرک تھی۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: میری ماں آئی ہے حالانکہ وہ مسلمان نہیں تو کیا پھر بھی میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔^(۱)

﴿کیا والدین کا خلاف شرع دیا گیا حکم ماننا پڑے گا؟﴾

جواب ﴿نہیں۔ حضور نبی مُخْتَرَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ“ یعنی اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔^(۲)

﴿اگر والدین ناراضی کی حالت میں فوت ہو جائیں تو اولاد کیا کرے؟﴾

جواب ﴿ان کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کرے، اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تخائف پہنچیں گے تو امید ہے کہ مرحوم والدین راضی ہو جائیں۔ سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا تو اب ان کے لیے ہمیشہ دعا و استغفار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ اس کو (والدین کے ساتھ) حسن سلوک کرنے والا لکھ دیتا ہے۔^(۳)

①... بخاری، کتاب الہیة وفضلها... الخ، باب الہدیة للمشرکین، ۱۸۲/۲، حدیث: ۲۶۲۰۔

②... مسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب طاعة الامراء... الخ، ص ۱۰۲۳، حدیث: ۱۸۴۰۔

③... شعب الایمان، باب فی بر الوالدین، فصل فی حفظ حق الوالدین بعد موتہما، ۲۰۲/۶، حدیث: ۷۹۰۲۔

اولاد اور ان کے حقوق

لڑکی پیدا ہونے پر غم و رنج کا اظہار کرنا کس کا طریقہ ہے؟

جواب: قرآن کریم میں اس کو کفار کا طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (ب ۱۲، النحل: ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔

اہل ایمان کے لیے کس طرح کی بیویاں اور اولاد دشمن ہیں؟

جواب: وہ جو انہیں نیک کاموں سے روکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ مِنْكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادٍ تُحْبَبُونَ فَاصْبِرُوا لَهُمْ﴾ (ب ۲۸، التغابن: ۱۴) ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو تمہاری کچھ بیبیاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اس آیت کے تحت صدرُ الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي لکھتے ہیں: (اس لئے) کہ (وہ) تمہیں نیکی سے روکتے ہیں اور ان کے کہنے میں آکر نیکی سے باز نہ رہو۔^(۱)

عورت کی پہلی اولاد لڑکی ہونے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: حضور نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔^(۲)

①... خزائن العرفان، پ ۲۸، التغابن، تحت الآیة: ۱۴، ص ۱۰۳۰۔

②... تاریخ ابن عساکر، العلاءین کثیر، ۲۴۵/۲۷۔

کو نئے انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں؟

جواب: حضرت سیدنا لوط اور حضرت سیدنا شعیب عَلَیْهِمَا السَّلَام۔ (1)

امام اہلسنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کے بیان کردہ اولاد کے حقوق میں سے کوئی پانچ بیان کیجئے؟

جواب: (1) بچہ کو پاک کمائی سے پاک روزی کھلائے (2) اولاد کو چھوڑ کر اکیلے نہ کھائے بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے (3) چند بچے ہوں تو سب کو برابر و یکساں دے، ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت کے علاوہ ترجیح نہ دے (4) بہلانے کیلئے جھوٹا وعدہ نہ کرے اور (5) وہ بیمار ہوں تو ان کا علاج کروائے۔ (2)

اولاد کو کتنی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے؟

جواب: حضور رحمت عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہوں اور انہیں نماز پر مارو جب وہ دس سال کے ہوں۔ (3)

کتنی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دینے کا حکم ہے؟

جواب: حدیث پاک میں ہے: دس سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دو۔ (4)

بچوں کو خوش کرنے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: جناب صادق و امین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: بے شک جنت

1... تفسیر مدارک، پ ۲۵، الشوری، تحت الآية: ۵۰، ص ۱۰۹۳۔

2... اولاد کے حقوق، ص ۱۹-۲۰، ملخصاً۔

3... ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب منی یؤمر الغلام بالصلاة، ۲۰۸/۱، حدیث: ۴۹۴۔

4... ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب منی یؤمر الغلام بالصلاة، ۲۰۸/۱، حدیث: ۴۹۵۔

میں ایک گھر ہے جسے دارُ الفرح (خوشی کا گھر) کہا جاتا ہے۔ اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔^(۱)

اپنے بچے کو قرآن پاک سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟

حضور پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآنِ کریم پڑھنا سکھایا بروزِ قیامت اُسے جنت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سبب اہلِ جنت جان لیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے بیٹے کو قرآنِ کریم کی تعلیم دی تھی۔^(۲)

اولاد کو ادب سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟

تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: انسان کا اپنے بچے کو ادب سکھانا ایک صاع (تقریباً چار کلو اور سو گرام) صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔^(۳)

بیٹے کے نکاح میں تاخیر کرنے پر کیا وعید آئی ہے؟

حضور نبی مُحَمَّدٍ رَمَزَمُ، رَسُوْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا گناہ میں مبتلا ہو تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا۔^(۴)

اپنی بیٹی کا نکاح فاسق سے کرنا کیسا ہے؟

حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنی بیٹی کا نکاح

① ... جامع صغیر، حرف البزرة، ص ۱۴۰، حدیث: ۲۳۲۱۔

② ... معجم اوسط، باب الالف، باب من اسمه احمد، ۴۰/۱، حدیث: ۹۶۔

③ ... ترمذی، کتاب البر والصلوة، باب ما جاء فی ادب الولد، ۳/۳۸۲، حدیث: ۱۹۵۸۔

④ ... شعب الایمان، السنون من شعب الایمان ... الخ، ۴۰۱/۶، حدیث: ۸۶۶۶۔

کسی فاسق سے کیا اس نے قطع رحمی کی۔ (1)

غیبت

غیبت کی تعریف کیا ہے؟

جواب صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے غیبت کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ ”کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔“ (2)

قرآن کریم میں غیبت سے کس طرح روکا گیا ہے؟

جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَلَا يَغْتَاب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ (الحجرات: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔

شبِ معراج پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں کا کیا عذاب دکھایا گیا؟

جواب شبِ اسراء کے دو لہا صلی اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں: معراج کی رات میرا گزر ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے ہوا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ میں نے کہا: جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے لوگ ہیں۔ (3)

①... الکامل لابن عدی، الحسن بن محمد ابومحمد البلیخی... الخ، ۳/۱۶۵۔

②... بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۵۳۲۔

③... شعب الایمان، باب فی تحریم اعراض الناس، ۵/۳۰۹، حدیث: ۶۷۵۰۔

غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟

جواب حضور تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: (غیبت یہ ہے کہ تم

اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی: اگر وہ بات

اس میں موجود ہو تو؟ ارشاد فرمایا: جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اُس میں موجود ہو تو

تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اُس پر بہتان باندھا۔^(۱)

کونسا دوزخی ہے جسے جہنم میں مُردار کھانا پڑے گا؟

جواب حدیث پاک کے مطابق غیبت کرنے والے کو جہنم میں مُردار کھانا پڑے گا۔^(۲)

غیبت کرنے والا قیامت میں کس شکل میں اُٹھے گا؟

جواب غیبت کرنے والا روزِ محشر کتے کی شکل میں اُٹھایا جائے گا۔^(۳)

لوگوں کی عزت خراب کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟

جواب حضور نبیِ غیبِ داں صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شبِ معراج ایسے لوگوں کے پاس

سے گزرے جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نونچ رہے تھے،

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے جبرائیل عَلَيْهِ السَّلَام سے پوچھا: یہ کون لوگ

ہیں؟ عرض کی: یہ لوگوں کا گوشت کھاتے (یعنی غیبت کرتے) تھے اور اُن کی

عزت خراب کرتے تھے۔^(۴)

① ... مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب تعزیم الغیبة، ص ۱۳۹، حدیث: ۲۵۸۹۔

② ... مسند احمد، مسند عبداللہ بن عباس، ۱/۵۵۳، حدیث: ۲۳۲۴۔

③ ... التوخیخ والتنبیہ، باب البہتان وما جاء فیہ، ص ۲۳، حدیث: ۲۱۶۔

④ ... ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی الغیبة، ۴/۳۵۳، حدیث: ۴۸۷۸۔

کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا کیسا؟

جواب: حدیث پاک میں ہے: حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرماتے ہیں: بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔^(۱)

حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا ہے؟

جواب: حضور تاجدارِ دو جہاں صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔^(۲)

کونسے تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟

جواب: حضرت سیدنا فقیر ابو الیث سمرقندی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: (۱) حرام کھانے والا (۲) بکثرت غیبت کرنے والا اور (۳) مسلمانوں سے حسد رکھنے والا۔^(۳)

کیا غیبت کی کوئی جائز صورت بھی ہے؟

جواب: جی ہاں! غیبت کی مُباح (جائز) صورت یہ ہے کہ فاسقِ مُغلِب (علائیہ گناہ کرنے والا) یا بدمذہب (بڑے عقائد رکھنے والے) کی برائی بیان کرے جبکہ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے۔^(۴)

کیا غیبت سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی ہے؟

①... ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی الغیبة، ۳۵۳/۲، حدیث: ۲۸۷۷۔

②... بخاری، کتاب الایمان، باب المسلم من سلم المسلمون... الخ، ۱۵/۱، حدیث: ۱۰۔

③... تنبیہ الغافلین، باب الحسد، ص ۵۹۔

④... تنبیہ الغافلین، باب الغیبة، ص ۹۰۔

جواب: ﴿جی ہاں! وہ آسان ترین وردیہ ہے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ﴾ (۱)

بدشگونی

شگون کی اقسام بتائیے اور ان کی وضاحت کیجئے؟

جواب: شگون کی دو قسمیں ہیں: (۱) اچھا شگون (۲) برا شگون۔ اچھا یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی اچھا کلام سن کر دلیل پکڑنا، اگر بر اکلام ہو تو بد شگونی ہے۔ حکم شرع یہ ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی مکمل کرے اور بر اکلام سن کر اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ (۲)

جواب: کسی کام سے نکلنے وقت حضور نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو کیا سننا پسند تھا؟ کسی کام سے نکلنے وقت حضور نبی مُحْتَرَم، رسول مُحْتَشَم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ”یا رَاشِدُ (اے ہدایت یافتہ)، یا نَجِیْحُ (اے کامیاب)“ سننا پسند تھا۔ (۳)

جواب: کسی شے کو منحوس جاننے کے بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے؟ کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصوّر نہیں یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ (۴)

①... القول البدیع، الباب الثانی فی ثواب الصلوۃ... الخ، ص ۷۸-۲

②... تفسیر قرطبی، پ ۲۶، الاحقاف، ۸/۱۳۲، تحت الاية: ۲-

③... ترمذی، کتاب السیر، باب ماجاء فی الطیرة، ۳/۲۲۸، حدیث: ۱۶۲۲-

④... بد شگونی، ص ۸-

اچھا شگون لینے اور بد شگونی کا شریعت میں کیا حکم ہے؟

جواب: مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں:

اسلام میں نیک فال لینا جائز ہے۔ بد فالی بد شگونی لینا حرام ہے۔^(۱)

نجومیوں، کاہنوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا کیسا؟

جواب: کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا بُرا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد

ہو یعنی جو یہ بتائیں حق ہے تو کفرِ خالص ہے اور اگر بطور اعتقاد و تَبَيُّن

(یعنی بطور یقین) نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہِ کبیرہ ہے اور اگر بطور ہزل

و استہزاء (یعنی ہنسی مذاق کے طور پر) ہو تو عَبَث (یعنی بے کار) و مکروہ و حماقت ہے،

ہاں! اگر بقصد تعجیز (یعنی اسے عاجز کرنے کے لئے) ہو تو حَرَج نہیں۔^(۲)

مکان کی تبدیلی سے بد شگونی لینا کیسا؟

جواب: ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ہم ایک مکان میں رہتے تھے، اس میں ہمارے اہل و عیال کثیر

اور مال کثرت سے تھا پھر ہم نے مکان بدلا تو ہمارے مال اور اہل و عیال کم ہو

گئے۔ حضور تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: چھوڑو! ایسا کہنا

بُری بات ہے۔^(۳)

چھینک سے بد شگونی لینا کس کا طریقہ ہے؟

① ... تفسیر نعیمی، ۱۱۹/۹۔

② ... فتاویٰ رضویہ، ۱۵۵/۲۱۔

③ ... ادب الدنیا والدین، الفصل السادس فی الطیر ووالفال، الطیر تدفخ البائسین، ص ۹۹۔

جواب: مجیدِ اعظم، امامِ اہلسنت، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن نے

فرمایا: چھینک اچھی چیز ہے، اسے بد شکونی جاننا مُشرکینِ ہند کا ناپاک عقیدہ ہے۔^(۱)

فال کھولنا یا فال کھولنے پر اُجرت لینے کا کیا حکم ہے؟

جواب: حکیمُ الأُمّت حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن لکھتے ہیں: فال کھولنا یا فال

کھولنے پر اُجرت لینا یا دینا سب حرام ہے۔^(۲)

شریعت میں استخارے کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: حضرت سَیِّدُنا جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ارشاد فرماتے ہیں: رسولِ اکرم

نورِ مُجَلَّبَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہم کو تمام اُمور میں استخارہ تعلیم فرماتے جیسے

قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے۔^(۳)

استخارہ کے کیا معنی ہیں؟

جواب: مُحَرَّرِثِ کبیر، حکیمُ الأُمّت حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:

استخارہ کے معنی ہیں: خیر مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا، چونکہ اس دعا و نماز

میں بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں اسی

لئے اسے استخارہ کہتے ہیں۔^(۴)

حدیثِ پاک میں استخارے کی کیا فضیلت آئی ہے؟

①... ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت، ص ۳۱۹۔

②... تفسیر نور العرفان، پ ۷، المائدہ، تحت الآیة: ۹۰، ص ۱۹۴۔

③... بخاری، کتاب التہجد، باب ما جاء فی الطلوع بشئ منی، ۱/ ۳۹۳، حدیث: ۱۱۶۲۔

④... مرآة المناجیح، ۲/ ۳۰۱۔

جواب حضور پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ ہو گا اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہو گا۔⁽¹⁾

استخارہ چھوڑنے کا کیا نقصان ہے؟

جواب نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔⁽²⁾

بدگمانی

بنیادی طور پر گمان کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب بنیادی اعتبار سے گمان کی دو اقسام ہیں: (1) حُسنِ ظن (2) سوءِ ظن (یعنی بدگمانی)۔

بدگمانی کی تعریف کیا ہے؟

جواب بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے بُرے ہونے کا دل سے پختہ یقین کرنا۔⁽³⁾

بدگمانی کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب مسلمان کے ساتھ بدگمانی حرام ہے۔⁽⁴⁾

قرآن پاک میں بکثرت گمان کی ممانعت کس مقام پر فرمائی گئی ہے؟

1... مسند شہاب، باب ماخاب بن استخار، ۷/۲، حدیث: ۴۷۴۔

2... ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاء في الرضا بالقضاء، ۶۰/۳، حدیث: ۳۱۵۸۔

3... فیض القدیر، ۱۵۷/۳، ماخوذ۔

4... احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، الآفة الخامسة العشرة الغيبة، بیان تحریم الغيبة بالقلب، ۱۸۶/۳۔

جواب کثرتِ گمان کی ممانعت قرآن پاک کے پارہ 26، سورہٴ حجرات کی آیت نمبر

12 میں فرمائی ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان

والو بہت گمانوں سے بچو بیشک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔

ظن یعنی گمان کسے کہتے ہیں؟

جواب جس بات کی طرف نفس بھٹکے اور دل اس کی طرف مائل ہو اسے ظن (یعنی گمان)

کہتے ہیں۔⁽¹⁾

بدگمانی کے حرام ہونے کی صورتیں کونسی ہیں؟

جواب بدگمانی کے حرام ہونے کی دو صورتیں ہیں: (1) بدگمانی کو دل پر جمالینا۔ علامہ

بدرالدین عینی عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّقَوِي فرماتے ہیں: گمان وہ حرام ہے جس پر اصرار

کیا جائے اور اُسے اپنے دل پر جمالیا جائے۔⁽²⁾ (2) بدگمانی کو زبان پر لے آنا یا

اس کے تقاضے پر عمل کر لینا۔ علامہ عبدالغنی نابلسی عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّقَوِي فرماتے

ہیں: بدگمانی اس صورت میں حرام ہے جب اس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہو، یوں کہ

اس کے تقاضے پر عمل کیا جائے۔⁽³⁾

بُرے گمان کے دل میں جم جانے کی پہچان کیا ہے؟

جواب جس کے بارے میں اسے بدگمانی ہے اس کے متعلق پہلے جیسی قلبی کیفیت نہ

①... احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، الآفة الخامسة العشرة الغيبة، بیان تحریم الغيبة بالقلب، 3/186۔

②... عمدة القاری، کتاب البر والصلة، باب ما ینھی... الخ، 15/18، تحت الحدیث: 6065۔

③... حدیقة ندى، الخلق الرابع والعشرون، 2/13۔

رہے، اس سے بہت نفرت کرنے لگے، اسے بوجھ تھوڑ کرے، اس کے احوال کی رعایت اور اس کی عزت کرنا چھوڑ دے۔^(۱)

بدگمانی سے کونسے باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں؟

جواب: بدگمانی سے بغض اور حسد جیسے باطنی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔^(۲)

بدگمانی کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟

جواب: بدگمانی سے توجہ ہٹا دی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم بدگمانی کرو تو اس پر جے نہ رہو۔^(۳)

حدیث پاک میں اچھے گمان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟

جواب: حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے۔^(۴)

بدترین جھوٹ کیا ہے؟

جواب: حدیث پاک میں بدگمانی کو بدترین جھوٹ فرمایا گیا ہے۔^(۵)

مسلمان سے بدگمانی پر حدیث شریف میں کیا وعید آئی ہے؟

جواب: حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے

۱... احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، الآفة الخامسة العشرة الغيبة، بیان تحریم الغيبة بالقلب، ۱۸۶/۳۔

۲... فتح الباری، کتاب الادب، باب ما ینبئ عن التحاسد والتدابیر، ۴/۱۰/۱۱، تحت الحدیث: ۶۰۶۶۔

۳... معجم کبیر، باب بن اسمہ العارث، حارثة بن النعمان... الخ، ۳/۲۲۸، حدیث: ۳۲۲۔

۴... ایوداؤد، کتاب الادب، باب فی حسن الظن، ۳۸۷/۲، حدیث ۴۹۹۳۔

۵... بخاری، کتاب الادب، باب یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن... الخ، ۱۱۷/۲، حدیث: ۶۰۶۶۔

مسلمان بھائی سے بُرا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے برا گمان رکھا۔^(۱)

حِصص

حِصص کسے کہتے ہیں؟

جواب ارادے میں خواہش کی زیادتی حِصص کہلاتی ہے۔^(۲) دوسرے لفظوں میں ”کسی چیز سے جی نہ بھرنا اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش کرنا حِصص ہے۔“^(۳)

حدیث شریف میں حِصص کی کس طرح مذمت فرمائی گئی ہے؟

جواب حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اگر انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا اور انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔^(۴)

کیا کبھی حِصص اچھی بھی ہوتی ہے؟

جواب جی ہاں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: دنیاوی حِصص بُری ہے دینی حِصص اچھی ہے۔^(۵)

①... درمستوں، پ ۲۶، الحجرات، تحت الآية: ۱۲، ۷/۵۶۶۔

②... سرفاۃ المفاتیح، کتاب الرقاق، باب الامل والحِصص، ۹/۱۱۹۔

③... مرآة المناجیح، ۷/۸۶۔

④... مسلم، کتاب الزکاة، باب لوان لابن آدم... الخ، ص ۵۲۱، حدیث: ۱۰۴۸۔

⑤... مرآة المناجیح، ۱/۲۲۲۔

بُری حرص کی وضاحت کیجئے؟

جواب: بُری حرص یہ ہے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے۔ (1)

کیا حرص کا معاملہ صرف دولت ہی میں ہوا کرتا ہے؟

جواب: ایسا نہیں ہے۔ لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ (2)

کونسے دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے؟

جواب: (1) علم کا حریص کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور (2) دنیا کا لالچی کہ یہ کبھی آسودہ نہیں ہوگا۔ (3)

کون سی دو خصالتیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں؟

جواب: رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ ابنِ آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خصالتیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں ایک مال کی حرص اور دوسری عمر کی حرص۔ (4)

علم دین کے حریص کے لیے کیا کیا انعامات ہیں؟

جواب: صوفیاء فرماتے ہیں: إِنَّ شَاءَ اللهُ (عَزَّوَجَلَّ) علم دین کا متلاشی مرتے ہی جنتی ہے۔

1... سرفازة المفاتيح، كتاب الرقاق، باب الامل والحرص، 119/9۔

2... جنتی زیور، ص 111۔

3... دارمی، باب فی فضل العلم والعلم، 108/1، حدیث: 331۔

4... بمسلم، كتاب الزکوة، باب کراهة الحرص علی الدنيا، ص 521، حدیث: 102۔

علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو اپنے خاتمے کی خبر نہیں سوا عالم دین کے کہ ان کے لیے حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) نے وعدہ فرمایا کہ اللہ (عَزَّوَجَلَّ) جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے علم دین دیتا ہے۔^(۱)

کس معاملے میں بے صبری اور حرص اعلیٰ ہے؟

جواب حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ التَّوْفِي فرماتے ہیں: ”دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔“^(۲)

مال و مرتبے کی حرص کا کیا نقصان ہے؟

جواب حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”دو بھوکے بھڑیئے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لئے نقصان دہ ہے۔“^(۳)

کن لوگوں کو زندہ رہنے کی سب سے زیادہ حرص ہے؟

جواب قرآن کریم کی سورہ بقرہ، آیت 96 کے تحت صدرُ الْاَفَا ضِل مفتی نعیم الدین مراد آبادی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ التَّوْفِي فرماتے ہیں: مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے آپس میں تَحِيَّت و سلام کے موقع پر کہتے ہیں ”زہ ہزار سال“ یعنی ہزار برس جیو۔ مطلب یہ ہے کہ مجوسی مشرک ہزار برس جینے کی تَمَنَّا رکھتے ہیں یہودی

①... مرآة المناجیح، ۱/ ۲۰۴۔

②... مرآة المناجیح، ۷/ ۱۱۳۔

③... ترمذی، کتاب الزہد، ۴۳- باب ۴، ۱۶۶/۲، حدیث: ۲۳۸۳۔

ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں حرصِ زندگانی سب سے زیادہ ہے۔ (1)

✓ جواب: حرص کے علاج کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟

✓ جواب: صبر، علم اور عمل۔ (2)

جھوٹ

✓ جواب: جھوٹ کسے کہتے ہیں؟

✓ جواب: کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برعکس بیان کرنا۔ (3)

✓ جواب: جھوٹوں کے لیے قرآن پاک میں کیا وعید آئی ہے؟

✓ جواب: قرآن پاک میں جھوٹوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت کا مُنْتَسِق قرار دیا گیا ہے۔ (4)

✓ جواب: جھوٹ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟

✓ جواب: حضور نبی مکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جھوٹ انسان کو برائی کی

طرف لے جاتا اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ (5)

✓ جواب: جھوٹ انسان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟

✓ جواب: حضور تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جھوٹ انسان

کو رُسوا کر دیتا ہے۔ (6)

1... خزائن العرفان، پ ۱، البقرة، تحت الآية: ۹۶، ص ۳۳۔

2... احیاء العلوم، کتاب ذم البخل... الخ، بیان علاج البخل، ۳/۲۹۷۔

3... حدیقة ندیة، الصنف الثانی، المبحث الاول، النوع الرابع، ۲/۲۰۰۔

4... پ ۳، آل عمران: ۶۱۔

5... مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الکذب... الخ، ص ۱۲۰۵، حدیث: ۲۶۰۷۔

6... الترغیب والترہیب، کتاب الادب وغیرہ، الترغیب فی الصدق التریب من الکذب، ۳/۳۶۸، حدیث: ۲۸۔

جھوٹ چھوڑنے والے کو حدیث پاک میں کیا نحو شجری دی گئی ہے؟

جواب حضور شفیح اُمّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ جنت نشان ہے: جس نے باطل

جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اُس کے لیے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا۔^(۱)

حدیث پاک میں منافق کی کیا نشانیاں آئی ہیں؟

جواب (۱) جب بات کرے جھوٹ بولے (۲) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے

اور (۳) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔^(۲) (۴) ایک

روایت میں یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔^(۳)

سچا انسان کس رتبے کا اور جھوٹا کس وعید کا مُسْتَحَق ہوتا ہے؟

جواب پیارے آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ

سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدمی برابر سچ

بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے

نزدیک ”صدیق“ لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور

(برائیوں) کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر

جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ

عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک ”کذاب“ لکھ دیا جاتا ہے۔^(۴)

①... ترمذی، کتاب البر والصلوة، باب ما جاء في المراء، ۳/۲۰۰، حدیث: ۲۰۰۰۔

②... بخاری، کتاب الایمان، باب علامة المنافق، ۱/۲۶، حدیث: ۳۳۔

③... بخاری، کتاب الایمان، باب علامة المنافق، ۱/۲۷، حدیث: ۳۴۔

④... مسلم، کتاب البر والصلوة والاداب، باب قبح الکذب... الخ، ص ۱۲۰۵، حدیث: ۲۶۰۷۔

سوال: جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے؟

جواب: حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اُس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے۔^(۱)

سوال: جھوٹ، حسد، چغلی اور غیبت والے دوزخ میں کس شکل کے ہوں گے؟

جواب: حضرت سیدنا حاتمِ اصم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْرَمُ فرماتے ہیں: جہنم میں جھوٹا کتے کی شکل میں، حسد کرنے والا سور کی شکل میں، چغلی خور اور غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔^(۲)

سوال: حدیث مبارکہ میں کن مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت آئی ہے؟

جواب: (۱) جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکا دینا جائز ہے (۲) دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے اور (۳) اپنی بیوی کو راضی کرنے کیلئے۔^(۳)

سوال: جھوٹی گواہی دینے والے کے لئے کیا وعید (سزا دیئے جانے کا فرمان) ہے؟

جواب: حضرت عبدُ اللهِ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ” جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔“^(۴)

سوال: جھوٹا خواب سنانے کی کیا وعید ہے؟

جواب: جناب رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جھوٹا خواب سنانے والے

۱... ترمذی، کتاب البر والصلوة، باب ماجاء في الصدق والكذب، ۳/۳۹۲، حدیث: ۱۹۷۹۔

۲... تنبیہ المغترین، الباب الثالث، ومنها سد باب الغيبة في الناس في مجالسهم، ص ۱۹۴۔

۳... ترمذی، کتاب البر والصلوة، باب ماجاء في اصلاح ذات البين، ۳/۳۷۷، حدیث: ۱۹۴۵۔

۴... ابن ماجہ، کتاب الاحکام، باب شهادة الزور، ۳/۱۲۳، حدیث: ۲۳۷۳۔

کو جو کے دو دانوں میں گانٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی جو وہ نہیں کر سکے گا۔⁽¹⁾ اور ایک حدیث پاک میں جھوٹا خواب گھڑ کر سنانے والے کو جنت کی خوشبو سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے۔⁽²⁾

بغض و کینہ

کینہ کی تعریف کیا ہے؟

کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔⁽³⁾

بغض و کینہ رکھنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟

کسی بھی مسلمان کے متعلق بلاوجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا ناجائز و گناہ ہے۔ عارف باللہ علامہ عبدالغنی نابلسی حنفی عَیْبِهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَفِي فرماتے ہیں: اگر حق و انصاف کی بات کرنے کے سبب کسی سے بغض و کینہ رکھے تو حرام ہے اور اگر کسی سے اُس کے ظلم کے سبب بغض رکھے تو جائز ہے۔⁽⁴⁾

احادیثِ کریمہ میں بغض و کینہ کا کیا نقصان بیان ہوا ہے؟

بغض و کینہ کے نقصانات پر مشتمل دو احادیثِ مبارکہ یہ بھی ہیں: (1) جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پزور ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔⁽⁵⁾ (2)

1... بخاری، کتاب التبعی، باب من کذب فی حلمہ، ۴/۲۲۲، حدیث: ۴۰۲۲۔

2... جامع صغیر، ص ۲۱۴، حدیث: ۵۳۲۔

3... احیاء العلوم، کتاب ذم الغضب والعقد والحسد، القول فی معنی العقد... الخ، ۳/۲۲۳۔

4... حدیث قدسیہ، السادس عشر من الاخلاق... الخ، ۱/۲۲۹۔

5... حلیۃ الاولیاء، ۸/۱۰۸، حدیث: ۱۱۵۳۶۔

بغض و دشمنی رکھنے سے بچو! کیونکہ بغض دین کو منڈوا لیتا (یعنی تباہ کر دیتا) ہے۔ (1)

صحابہ کرام سے بغض و کینہ رکھنا کیسا؟

جواب: سخت حرام ہے۔ صدرُ الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْہَادِی

فرماتے ہیں: جو بد نصیب صحابہ کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ

دشمنِ خدا اور رسول ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھیں۔ (2)

ساداتِ کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے؟

جواب: حدیث شریف میں ہے: جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت

کے دن حوضِ کوثر سے آگ کے چابکوں کے ساتھ دور کیا جائے گا۔ (3)

علمائے کرام سے بغض رکھنے والے کا کیا حکم ہے؟

جواب: (عالم دین سے) اگر بے سبب رنج (یعنی بغض) رکھتا ہے تو مریضُ القَلْب، خبیثُ

الباطن اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ (4)

اولیائے کرام سے بغض رکھنے پر کیا وعید آئی ہے؟

جواب: حدیث شریف میں ہے: جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے تحقیق اس

نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ اعلانِ جنگ کر دیا۔ (5)

1... کنز العمال، کتاب الاخلاق، قسم الافعال، جزء: ۳، ۲۸/۲، حدیث: ۵۴۸۶۔

2... سوانح کربلا، ص ۳۱۔

3... معجم اوسط، ۳۳/۲، حدیث: ۲۴۰۵۔

4... فتاویٰ رضویہ، ۱۲۹/۲۱۔

5... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب من ترجیٰ لہ سلامۃ الفتن، ۳۵۰/۴، حدیث: ۳۹۸۹۔

کیا مال و دولت کی فراوانی بغض و کینہ کا سبب بنتی ہے؟

جواب جی ہاں! یہ بھی آپس میں بغض و کینہ کا ایک سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”لَا تَفْتَحُ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ بَيْنَهُمْ

الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ یعنی دنیا کسی پر کشادہ نہیں کی جاتی مگر

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تا قیامت ان کے درمیان بغض و عداوت رکھ دیتا ہے۔⁽¹⁾

بغض و کینہ سے بچنے کے کوئی دو علاج بتائیے؟

جواب (1) ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی دعا کیجئے، پارہ 28 سورہ حشر، آیت نمبر 10

کو یاد کر لینا اور وَقْتًا فَوْقًا يَظْهَرُونَ رَهْنًا بِيْهِمْ مَفِيْدٌ هِيَ: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبَبًا اِنَّكَ رَمَعٌ وَّوْفٌ شَرِيْمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے

دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ اے رب ہمارے بیشک تو ہی

نہایت مہربان رحم والا ہے۔ (2) مسلمانوں سے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی رضا کے لئے

محبت کرنا کیونکہ محبت کینے کی ضد ہے۔⁽²⁾

کیا شبِ براءت میں بغض و کینہ رکھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے؟

جواب جی نہیں! حضور نبیِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اللہ عَزَّ وَجَلَّ شعبان

کی پندرہویں رات اپنے بندوں پر خاص تہجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں

کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے جبکہ کینہ

①... سند احمد، سند عمر بن الخطاب، ۱/۲۵، حدیث: ۹۳۔

②... باطنی بیماریوں کی معلومات، ص ۵۵-۵۶۔

رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔^(۱)

دوسروں کو اپنے کینے سے کیسے بچایا جاسکتا ہے؟

جواب: اس کے لیے پانچ مدنی پھول پیش خدمت ہیں: (۱) کسی کی بات کاٹنے سے بچئے

(۲) تغزیت کے دوران مسکرانے سے بچئے (۳) کسی کی غلطی نکالنے میں احتیاط

کیجئے (۴) موقع محل کے مطابق عمل کیجئے (۵) خواجواہ حوصلہ شکنی نہ کیجئے۔^(۲)

کیا اہل جنت کے درمیان بھی بغض و کینہ ہوگا؟

جواب: جی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے: اہل جنت میں آپس میں اختلاف نہ ہوگا، نہ

بغض و کدورت۔ سب کے دل ایک ہوں گے، صبح و شام اللہ عزوجل کی پاکی

بیان کریں گے۔^(۳)



حسد کسے کہتے ہیں؟

جواب: کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں

شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اسے ”حسد“ کہتے ہیں۔^(۴)

حسد کرنے والے اور جس سے حسد کیا جائے اُسے کیا کہتے ہیں؟

جواب: حسد کرنے والے کو ”حاسد“ اور جس سے حسد کیا جائے اُسے ”مَحْسُود“ کہتے ہیں۔

۱... شعب الایمان، باب فی الصیام، ماجاء فی لیلۃ النصف من شعبان، ۳/۳۸۲، حدیث: ۳۸۳۵۔

۲... بغض و کینہ، ص ۶۲۔

۳... بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ماجاء فی صفة الجنة... الخ، ۲/۳۹۱، حدیث: ۳۲۲۵۔

۴... طريقة محمدية مع حقيقة ندية، الخلق الخامس عشر من الاخلاق الستين المذمومة... الخ، ۱/۲۰۰-۲۰۱۔

عَنْطَ کسے کہتے ہیں؟

جواب: عَنْطَ یعنی رشک کے یہ معنی ہیں کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ویسی مجھے بھی مل جائے اور یہ آرزو نہ ہو کہ اسے نہ ملتی یا اس سے جاتی رہے۔^(۱)

آپس میں بھائی بھائی ہونے کا کیا نسخہ ہے؟

جواب: حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے لہذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔^(۲)

کونسی خطا سب سے پہلے واقع ہوئی؟

جواب: جو خطا سب سے پہلے کی گئی وہ حسد ہے۔^(۳)

سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟

جواب: سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا۔^(۴)

شیطان نے کس سے کس معاملے میں حسد کیا تھا؟

جواب: ایلیس ملعون نے حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں اُن سے حسد کیا۔^(۵)

①... احیاء العلوم، کتاب ذم الغضب والحقد والحسد، القول فی ذم الحسد وفی حقیقته... الخ، ۳/۲۳۲۔

②... مرآة المناجیح، ۶/۶۰۸۔

③... درستیوں پ ۱، البقرة، تحت الآیة: ۳۳، ۱/۱۲۵۔

④... درستیوں پ ۱، البقرة، تحت الآیة: ۳۳، ۱/۱۲۵۔

⑤... درستیوں پ ۱، البقرة، تحت الآیة: ۳۳، ۱/۱۲۵۔

حدیث پاک میں حسد کی کس طرح مذمت فرمائی گئی ہے؟

جواب: حضور جانِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: حسد کرنے والا، چُغلی کھانے والا اور کائن (نجومی، فال نکلنے والا) مجھ سے نہیں (یعنی میرے طریقہ پر نہیں) اور میں اُن سے نہیں۔^(۱)

حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کس طرح مول لیتا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نعمتوں کی جو تقسیم فرمائی ہے حسد کرنے والا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے عدل و انصاف پر انگلی اٹھاتا ہے۔^(۲)
اس طرح وہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی ناراضی مول لیتا ہے۔

حسد سے نیکیوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟

جواب: حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔^(۳)

پچھلی اُمت سے اس اُمت میں آنے والی باطنی بیماریاں کونسی ہیں؟

جواب: حضرت زبیر بن عوام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اگلی اُمت کی بیماری تمہاری طرف بھی آئی وہ بیماری حسد و بغض ہے۔^(۴)

۱... مجمع الزوائد، کتاب الادب، باب ماجاء في الغيبة والنميمة، ۸/۲۷، حدیث: ۱۳۱۲۶۔

۲... احیاء العلوم، کتاب ذم الغضب والحقد والحسد، القول في ذم الحسد وفي حقيقته۔ الخ، ۳/۲۲۲۔

۳... ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب الحسد، ۴/۴۳، حدیث: ۴۲۱۰۔

۴... ترمذی، کتاب صفة القيامة، الخ، ۵۶-۵۷، باب، ۴/۲۲۸، حدیث: ۲۵۱۸۔

حسد و بغض انسان کے دین پر کیا اثرات ڈالتے ہیں؟

جواب: یہ باطنی امراض انسان کے دین کو تباہ کر دیتے ہیں۔^(۱)

غصہ

غصہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: حکیمُ الأُمّت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ النَّوْبِیِّ فرماتے ہیں: غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع کرنے پر ابھارے۔^(۲)

غصہ پینے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: حضور اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہے: جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرمادے گا۔^(۳)

کیا غصہ حرام ہے؟

جواب: عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے۔ غصہ ایک غیر اختیاری امر ہے، انسان کو آہی جاتا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں، ہاں غصہ کا بے جا استعمال برا ہے۔^(۴)

غصے کے سبب جنم لینے والی کوئی چھ بُرائیاں بیان کیجئے؟

①... ترمذی، کتاب صفة القیامة... الخ، ۵۶-باب، ۲۲۸/۲، حدیث: ۲۵۱۸-

②... مرآة المناجیح، ۶/۶۵۵-

③... کنز العمال، کتاب الاخلاق، قسم الاقوال، ۱۶۳/۳، حدیث: ۷۱۶۰-

④... غصے کا علاج، ص ۲۷-

جواب: غصے سے تقریباً ۱۶ برائیاں جنم لیتی ہیں جن میں سے چھ یہ ہیں: (۱) حسد (۲)

غیبت (۳) چغلی (۴) قطع تعلق (۵) جھوٹ اور (۶) گالی گلوچ۔^(۱)

اگر غصہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی پر ختم ہو تو کیا وعید ہے؟

جواب: رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: جہنم کا

ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

ناراضی پر ہی ختم ہوتا ہے۔^(۲)

حضرت حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي غصیلے شخص کے لئے کیا فرماتے ہیں؟

جواب: آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اے آدمی! غصے میں تو خوب اُچھلتا ہے،

کہیں اب کی اُچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔^(۳)

اگر غصے کے سبب گناہ سَرَزِد ہو جاتا ہو تو کیا علاج کیا جائے؟

جواب: ایسے شخص کو چاہئے کہ ہر نماز کے بعد بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۲۱ بار پڑھ کر

اپنے اوپر دم کر لے۔^(۴)

کس خوش نصیب کا دل سکون و ایمان سے بھر دیا جاتا ہے؟

جواب: حدیث پاک میں ہے کہ ”جس شخص نے عُصَّہ صَبَط کر لیا یا بُجُو داس کے کہ وہ عُصَّہ

نافذ کرنے پر فُردت رکھتا تھا اللہ عَزَّوَجَلَّ اُس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر

①... غصے کا علاج، ص ۷-۸۔

②... کنز العمال، کتاب الاخلاق، ۲۰۸/۳، حدیث: ۷۷۰۳۔

③... احیاء العلوم، ۲۰۵/۳۔

④... غصے کا علاج، ص ۳۰۔

دے گا۔“ (۱)

کیا غصے کا علاج کرنا ضروری ہے؟

جی ہاں، حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی فرماتے ہیں:

غصے کا علاج کرنا واجب ہے کیونکہ بہت سارے لوگ غصے کے باعث جہنم میں

جائیں گے۔ (۲)

حدیث مبارکہ میں غصے کی آگ بجھانے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟

حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہے: بیشک غصہ شیطان کی طرف

سے ہے اور شیطان آگ کی پیدائش ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے لہذا جب

تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لیا کرے۔ (۳)

کیا غصے کی عادت نکالنے کے لئے کوئی روحانی علاج بھی ہے؟

جی ہاں، غصے کی عادت ختم کرنے کے لیے یہ دو ورد کیے جاسکتے ہیں: (۱) چلتے

پھرتے کبھی کبھی یَا اللہُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ کہہ لیا کرے۔ (۲) چلتے پھرتے

یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ پڑھتا رہے۔ (۴)

جب غصے میں اپنے آپ پر قابو نہ ہو رہا ہو تو خود کو کیسے سمجھائیں؟

ایسے وقت میں خود کو یوں سمجھائیں کہ مجھے دوسروں پر اگر کچھ قدرت حاصل

① ... جامع صغیر، ص ۵۲۱، حدیث: ۸۹۹۔

② ... کیمیائے سعادت، ۲/۶۰۱۔

③ ... ابوداؤد، کتاب الادب، باب ما یقال عند الغضب، ۴/۳۲۷، حدیث: ۷۸۴۔

④ ... غصے کا علاج، ص ۳۰۔

بھی ہے تو اس سے بے حد زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھ پر قادر ہے، اگر میں نے غصے میں آکر کسی کی دل آزاری یا حق تلفی کر ڈالی تو قیامت کے روز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب سے میں کس طرح محفوظ رہ سکوں گا۔^(۱)

تکبر

تکبر کسے کہتے ہیں؟

جواب: حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔^(۲)

تکبر سے بچنے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص تکبر، خیانت

اور دین (یعنی قرض وغیرہ) سے بڑی ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔^(۳)

تکبر کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: (۱) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مقابلے میں تکبر (۲) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسولوں کے مقابلے

میں تکبر (۳) بندوں کے مقابلے میں تکبر۔^(۴)

”تکبر“ کے اسباب بیان کریں؟

جواب: (۱) علم (۲) عمل (۳) حَسْب و نَسْب (۴) حسن و جمال (۵) طاقت و قوت (۶) مال

①... غصے کا علاج، ص ۱۵۔

②... مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ، ص ۶۰، حدیث: ۹۱۔

③... ابن ماجہ، کتاب الصدقات، باب التشدید فی الدین، ۳/۱۲۲، حدیث: ۲۲۱۲۔

④... احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر و العجب، النسخۃ الاول، بیان المنکبر علیہ و درجائہ... الخ، ۳/۲۲۳۔

و دولت اور (7) پیروکاروں کی کثرت۔⁽¹⁾

کیا علم کی بھی کوئی آفت ہے؟

جی ہاں، ایک روایت میں ”تکبر“ کو علم کی آفت قرار دیا گیا ہے۔⁽²⁾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مقابلے میں تکبر کرنے والے فرعون کا کیا انجام ہوا؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اُسے اور اس کی قوم کو دریائے قلزم میں غرق کر دیا اور پھر

مرے ہوئے نیل کی طرح دریا کے کنارے پر پھینک دیا تاکہ وہ بعد والوں

کے لیے نشانِ عبرت بن جائے۔⁽³⁾

بندوں کے مقابلے میں تکبر سے کیا مراد ہے؟

اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو حقیر جان کر اُس پر

بڑائی چاہنا اور مساوات (یعنی باہم برابری) کو ناپسند کرنا۔⁽⁴⁾

حَسَبٌ وَنَسَبٌ تکبر کا سبب کس طرح بنتا ہے؟

اس طرح کہ اعلیٰ نسب انسان اپنے خاندان کے بل بوتے پر اُکڑتا اور دوسروں

کو حقیر جانتا ہے۔⁽⁵⁾

وہ کونسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے؟

1... احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، الشطر الاول، بیان مابہ التکبر، ۳/۲۶-۲۷

2... احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، الشطر الاول، بیان مابہ التکبر، ۳/۲۶-۲۷

3... حدیقہ تندیۃ، الصنف الاول، والخلق الثانی عشر... الخ، المبحث الثانی، ۱/۵۳۹-

الزواج، الباب الاول، الکبریۃ الاولى، ۱/۷۱، ملقط۔

4... احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، الشطر الاول، بیان المتکبر علیہ ودرجاتہ... الخ، ۳/۲۵-۲۶

5... احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، الشطر الاول، بیان المتکبر علیہ... الخ، ۳/۲۳۱-

جواب: (1) اُمراءِ ظلم کی وجہ سے (2) عَصَبِیَّت کی وجہ سے (3) رئیس اور سردار تکبر کی وجہ سے (4) تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے (5) اہل علم حسد کی وجہ سے (6) مالدار بخل کی وجہ سے۔ (1)

پانچ ٹخنوں سے نیچے رکھنا کس صورت میں حرام ہے؟

جواب: امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: پانچوں کا کَعْبِیْن (یعنی ٹخنوں) سے نیچا ہونا اگر براہِ عجب و تکبر (یعنی خود پسندی اور تکبر کی وجہ سے) ہے تو قطعاً ممنوع و حرام ہے۔ (2)

کیا تھوڑے سے تکبر کی بھی معافی نہیں؟

جواب: حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ (3)

کیا اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند ہونا بھی تکبر ہے؟

جواب: کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: کسی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو حضور جانِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو دوست رکھتا ہے اور تکبر حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ (4)

1... کنز العمال، کتاب المواعظ... الخ، الفصل الخامس، الجزء السادس عشر، ۳۷/۸، حدیث: ۲۴۰۲۳۔

2... فتاویٰ رضویہ، ۲۲/۱۶۳۔

3... مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ، ص ۶۱، حدیث: ۹۱۔

4... مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ، ص ۶۰، حدیث: ۹۱۔

ریا کاری

ریا کاری کسے کہتے ہیں؟

جواب: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریا کاری ہے۔ مثلاً لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں۔⁽¹⁾

حدیث پاک میں کس برائی کو شرکِ اصغر فرمایا گیا ہے؟

جواب: حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرکِ اصغر کا ہے۔ لوگوں نے عرض کی: شرکِ اصغر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ریا کاری۔⁽²⁾

ریا کاری کے درجات کون کونسے ہیں؟

جواب: حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ التَّوَّابِ لکھتے ہیں: ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے، بعض ریا شرکِ اصغر ہیں، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ، بعض ثواب۔⁽³⁾

ریا کاری کی اقسام بیان کریں؟

جواب: ریا کی دو قسمیں ہیں: (1) جلی (یعنی وہ ریا کاری جو بالکل واضح ہو) (2) خفی (یعنی وہ

1... الزواجر، الباب الاول، الکبیرة الثانية، ۸۶/۱۔

2... مستند امام احمد، حدیث محمود بن لبید رضی اللہ عنہ، ۱۶۰/۹، حدیث: ۲۳۶۹۲۔

3... مرآة المناجیح، ۷/۱۲۷۔

ریا کاری جو پوشیدہ ہو۔ (1)

ریا کاری کی صورتیں اور ان کے احکام بیان کریں؟

جواب ریا کی دو صورتیں ہیں، کبھی تو اصل عبادت ہی ریا کے ساتھ کرتا ہے کہ مثلاً لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو پڑھتا ہی نہیں یہ ریا کے کامل ہے کہ ایسی عبادت کا بالکل ثواب نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل عبادت میں ریا نہیں، کوئی ہوتا یا نہ ہوتا بہر حال نماز پڑھتا مگر وصف میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا جب بھی پڑھتا مگر اس خوبی کے ساتھ نہ پڑھتا۔ یہ دوسری قسم پہلی سے کم درجہ کی ہے اس میں اصل نماز کا ثواب ہے اور خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ یہاں نہیں کہ یہ ریا سے ہے اخلاص سے نہیں۔ (2)

قیامت کے دن ریا کار کو کن ناموں سے پکارا جائے گا؟

جواب حضور نبی غیب دان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: روز قیامت ریا کاروں کو تمام لوگوں کے سامنے ان چار ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر! اے بدکار! اے دھوکے باز! اے خسارہ پانے والے۔ (3)

جہنم کی جس وادی سے جہنم بھی 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا ہے اُس میں کون جائے گا؟

1... احیاء العلوم، کتاب ذم العباد والریاء، الشطر الثانی، بیان ریاء الخفی الذی بوأخفی من دیب النمل، ۳/۳۷۳۔

2... رد المحتار، کتاب العطر والاباحۃ، فصل فی البیع، ۹/۵۰۱-۵۰۲۔ بہار شریعت، حصہ ۱۶، ۳/۶۳۷، بلقطن۔

3... الزواجر، الباب الاول، الکبیرۃ الثانیۃ، ۱/۸۵۔

جواب یہ وادی اس اُمت میں سے قرآنِ کریم کے ریاکار حافظ، غیورِ اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے ریاکار، بیٹ اللہ کے ریاکار حاجی اور راہِ خدا میں نکلنے والے ریاکار کے لیے بنائی گئی ہے۔^(۱)

ریاکار کو کس بڑی نعمت سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے؟

جواب ریاکار کو جنت سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے، حدیثِ پاک میں ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہر ”ریاکار“ پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔^(۲)

کیا ذرہ بھر ریاکاری بھی نقصان دہ ہے؟

جواب اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا جس میں ایک ذرہ برابر بھی ریاکاری ہو۔^(۳)

چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف عمل کونسا ہوتا ہے؟

جواب ریاکاری۔^(۴)

دکھاوے کے لیے عمل کرنے والوں سے بروز قیامت کیا ارشاد ہوگا؟

جواب حدیث شریف میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت میں جب لوگوں کو جمع فرمائے گا

تو ایک منادی ندا کرے گا: جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے کیے گئے عمل میں کسی

کو شریک کیا (یعنی ریاکاری کی) تو وہ اپنا ثواب اسی غیر اللہ سے لے۔^(۵)

① ... معجم کبیر، ۱۳۶/۱۲، حدیث: ۱۲۸۰۳۔

② ... جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف الهمزة، الهمزة مع النون، ۲/۲۴۲، حدیث: ۵۳۲۹۔

③ ... الترغیب والترہیب، الترہیب من الریاء... الخ، ۳۶/۱، حدیث: ۳۷۷۔

④ ... الزواجر، الباب الاول، الکبیرة الثانیة، ۱/۹۲۔

⑤ ... ترمذی، کتاب النفسین، باب ومن سورۃ الکہف، ۵/۱۰۵، حدیث: ۳۱۶۵۔

ریاکاری کے خوف سے کسی نیک کام کو چھوڑ دینا کیسا ہے؟

جواب: ریاکاری کے خوف سے اس کام کو چھوڑ دینا یہ بہت غلط سوچ ہے اور شیطان کی ماننا ہے۔ (1)

سیرت

حضور جانِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے؟

جواب: ۱۲ ربیع الاول۔ (2) مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو تشریف لائے۔ (3)

حضور نبی مکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟

جواب: نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا تعلق عرب کے مشہور و معروف اور معزز و مختتم خاندان قریش سے تھا۔ (4)

پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پردادا کا نام کیا ہے؟

جواب: حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے پردادا جان کا نام ہاشم ہے۔ (5)

رحمتِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟

جواب: حضور اکرم، نبی مختتم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ عَلَیْہِ السَّلَام کی اولاد میں سے ہیں۔ (6)

1... احیاء العلوم، کتاب ذم الجاہ والریاء، الشطر الثانی، بیان ترک الطاعات خوفاً من الریاء... الخ، ۳/۳۹۵۔

2... دلائل النبوة للبیہقی، باب الشهر الذی ولد فیہ رسول اللہ، ۱/۹، حدیث: ۲۔

3... فتاویٰ رضویہ، ۲۶/۳۱۴۔

4... مسلم، کتاب الفضائل، فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم... الخ، ص ۱۲۴۹، حدیث: ۲۲۷۶۔

5... بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب بعثت النبی، ۲/۵۷۳۔

6... ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۵/۳۵۰، حدیث: ۳۶۲۵۔

حضرت آمنہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كِي وَفَات كَب هُوْنِي؟

جواب: حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي عمر شريف جب چھ برس كِي تھی تو آپ كِي والده ماجده رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كا وصال هوگيا۔⁽¹⁾

حضور اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي رضاعي والده كانام بتايے؟

جواب: رحمت كو نمين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي رضاعي والده كانام حضرت حليمه سعدية رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا هے۔⁽²⁾

حضور نبی كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كے شہزادے كتنے تھے؟

جواب: حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كے چار شہزادے ہوئے جن كے اسمائے مباركہ يہ ہيں: (1) حضرت سَيِّدُنَا قاسم (2) حضرت سَيِّدُنَا طيب (3) حضرت سَيِّدُنَا طاہر اور (4) حضرت سَيِّدُنَا ابراهيم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ۔ ان ميں سے پہلے تين شہزادے اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سَيِّدُنَا خديجةُ الْكَبْرَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے ہيں اور يہ ظہورِ اسلام سے پہلے انتقال فرما گئے تھے اور چوتھے شہزادے حضرت سَيِّدُنَا ماريہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے ہيں۔⁽³⁾

پيارے آقاصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي شہزادياں كتنی تھيں؟

جواب: رحمت كو نمين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي چار شہزادياں تھيں اور ان كے اسمائے مباركہ يہ ہيں: (1) حضرت سَيِّدُنَا زينب (2) حضرت سَيِّدُنَا رُقِيه

1... المواهب اللدنيه، المقصد الاول، ذكر رضاعته، 1/88، بلخصاً۔

2... بسند ابويعلی، حديث حلیمة بنت العارث، 151/6، حديث: 126۔

3... بشير القاري، ص 106۔

(3) حضرت سیدتنا ام کلثوم اور (4) خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ (1)

حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد بیان کریں؟

جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد 6 ہے۔ (2)

پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے جو دو ٹکڑے کر کے دکھائے تھے وہ کس کس پہاڑ پر دیکھے گئے تھے؟

جواب: ایک ٹکڑا ”جبلِ اَبُو قُبَيْس“ اور دوسرا ٹکڑا ”جبلِ قَعِيقَان“ پر دیکھا گیا۔ (3)

سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ کریمہ کے بارے میں کچھ بتائیے؟

جواب: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ کے بارے میں خود خالقِ اخلاق

عَزَّ وَجَلَّ نے یہ فرمادیا: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (ب: ۲۹، القلم: ۴) ترجمہ کنز الایمان: ”اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔“ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محاسنِ اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے۔ یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاءِ عہد، حسنِ معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، یلنساری، مساوات، عنخواری، سادگی و بے تکلفی، تواضع و انکساری، حیاداری کی

1... فقہ الکبیر، ابناء رسول اللہ وبناتہ، ص ۱۹۹۔

2... سواہب اللدنیۃ، المقصد الثانی، الفصل الرابع، ۱/۲۵۔

3... خصائص کبریٰ، باب انشقاق القس، ۱/۲۱۰۔

اتنی بلند منزلوں پر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ يَعْنِي تَعْلِيمَاتِ قُرْآنٍ پُرْپُورًا پُرْپُورًا عَمَلٌ يَهِيْ بِأَبِ صَدِّقِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَهِ اخْلَاقٍ تَهَى۔ (1)

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا وصالِ ظاہری کس سنِ ہجری میں ہوا؟
جواب گیارہ سنِ ہجری۔ (2)

سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

قرآنِ پاک میں کسے سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا؟
جواب قرآنِ پاک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا۔ چنانچہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَسَيَجِدُهَا بِالْأَثْقَى﴾ (پ ۳۰، اللیل: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور بہت جلد اس (جہنم) سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس آیت میں اَثْقَى (سب سے بڑا پرہیزگار) سے مراد سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہیں۔ امام فخر الدین رازی عَنِہ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے بارے میں نازل ہوئی۔“ (3)

1... سیرت مصطفیٰ، ص ۵۹۹-۶۰۰، ملتقطاً۔

2... دلائل النبوة للبيهقي، جماع ابوب مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم... الخ، باب ما جاء في الوقت... الخ، ۴/۲۳۳۔

3... تفسیر کبیر، پ ۳۰، اللیل: ۱۷، ۱۸۷/۱۱۔

شانِ صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے بارے میں کچھ فرامینِ مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بیان فرمائیں؟

جواب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی شان میں تین فرامینِ مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (۱) ”فرشتے ابو بکر صدیق کو روزِ قیامت لائیں گے اور انبیاء و صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے۔“ (۱) (۲) ”مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روزِ قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔“ (۲) (۳) ”میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔“ (۳)

انبیاء و مرسلین عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟

جواب ”بعد انبیاء و مرسلین (انس و ملک) تمام مخلوقاتِ الہی انس و جن و ملک (فرشتوں) سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولیٰ علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ۔“ (۴)

خلیفہ اول کا نام، کنیت اور لقب کیا ہے، نیز آپ کب پیدا ہوئے؟

جواب خلیفہ اول جانشینِ پیغمبر امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا نام نامی ”عبد اللہ“، کنیت ”ابو بکر“ اور لقب ”صدیق و عتیق“ ہے، آپ عام الفیل

۱... کنز العمال، فضل ابی بکر الصدیق، ۶/۲۵۵، حدیث: ۳۲۶۲۴۔

۲... ترمذی، کتاب المناقب، باب فی مناقب ابی بکر و عمر، ۵/۳۷۴، حدیث: ۳۶۸۱۔

۳... ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل، ۵/۴۳۵، حدیث: ۳۸۱۵۔

۴... بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/۲۴۱۔

کے دو سال چھ ماہ بعد پیدا ہوئے۔^(۱)

آپ کے لقب ”صدیق“ اور ”عتیق“ کی وجہ بیان کریں نیز یہ القاب آپ کو کس نے دیئے؟

جواب دونوں القابات آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوئے۔ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کے سبب آپ کو صدیق کہا گیا جبکہ عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ایک مرتبہ آپ کو فرمایا: ”أَنْتَ عَتِيقٌ مِّنَ النَّارِ یعنی تم جہنم سے آزاد ہو۔“ تب سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔^(۲)

ان شخصیت کا نام بتائیے جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا؟

جواب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ۔^(۳)

پیارے آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے والہانہ عقیدت و محبت اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی جانفاری کی کچھ جھلک بتائیے؟

جواب جس وقت کفار آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی جان کے دشمن تھے اُس وقت آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا دفاع کرنا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، غار ثور میں

①... ابن حبان، کتاب اخبارہ عن مناقب... الخ، ذکر السبب... الخ، ۶/۹، حدیث: ۶۸۲۵۔ سیرت حلبیہ، ذکر اول الناس

ایمانابہ، ۱/۳۹۰۔ ریاض النضرۃ، ۱/۷۷، الاصابۃ فی تمييز الصحابة، ۴/۱۴۵۔ فیضان صدیق اکبر، ص ۳۳۔

②... ابن حبان، کتاب اخبارہ عن مناقب الصحابة، ۶/۹۔

الاصابة فی تمييز الصحابة، ۸/۳۳۲۔ مستدرک، ۴/۲۵، حدیث: ۴۵۱۵۔

③... ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب، ۵/۴۱۱، حدیث: ۳۷۵۵۔

سانپ کے ڈسنے پر صبر کرنا یونہی تمام غزوات میں سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سے جدانہ ہونا اور اپنے گھر کا سارا مال حضورِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی خدمت میں پیش کرنا یہ سب باتیں رسولِ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سے والہانہ عقیدت و محبت اور آپ کی جانثاری کی ایک بڑی جھلک ہیں۔^(۱)

﴿جواب﴾ صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کب منصبِ خلافت پر مُتَمَكِّن ہوئے اور کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟

﴿جواب﴾ صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رسولِ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے وصال کے دن 12 ربیع الاول بروز پیر 11 سن ہجری کو منصبِ خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کی مدتِ خلافت دو سال، تین ماہ اور کچھ ایام تھی۔^(۲)

﴿جواب﴾ خلیفہ بننے کے بعد آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سب سے پہلا کام کیا فرمایا؟

﴿جواب﴾ خلیفہ بننے کے بعد آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت اُسامہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی سرکردگی میں رسولِ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے بھیجے گئے اُس لشکر کو روانہ کیا جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے وصال کے سبب مقامِ جُوف پر ٹھہرا ہوا تھا۔^(۳)

﴿جواب﴾ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے دورِ خلافت میں جو نمایاں کارنامے سرانجام دیئے ان میں سے کچھ بیان کریں؟

①... فیضانِ صدیق اکبر، ص ۱۰۷-۱۹۸-۲۵۱-۲۰۹-۲۶۹۔

②... صفة الصفوة، ذکرِ خلافتِ ابی بکر، ۱/۳۲۔ طبقات ابن سعد، ذکرِ وصیةِ ابی بکر، ۱۵۱/۳۔

③... تاریخ ابن عساکر، اسامتین زیدین حارثة، ۲۶/۲-۸۵۹۶۔ طبقات ابن سعد، ۵۰/۳۔

جواب ﴿﴾ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے دورِ خلافت میں بہت سے نمایاں کارنامے سر انجام دیئے جن میں سے چند یہ ہیں: (1) مُنْكَرِينَ زَكَاةَ كِي سَرَكُوْبِي (2) مُرْتَدِيْنَ كِي سَرَكُوْبِي (3) جھوٹے مدعی نُبُوْتِ مُسْتَلِمِه كَذَاب كِي سَرَكُوْبِي (4) عراق و شام اور اس کے مُتَحَقِّقَه علاقوں میں فتوحات کا آغاز اور (5) جمعِ قرآن جو سب سے اہم کارنامہ ہے۔ (1)

سوال ﴿﴾ آپ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کو کیا کیا فتوحات ملیں؟

جواب ﴿﴾ آپ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کو بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں جن میں سے چند یہ ہیں: (1) فَتْحِ حَيْزِه (2) فَتْحِ اَنْبَار (3) فَتْحِ عَيْنِ التَّمْرِ (4) فَتْحِ دُوْمَةَ الْجَنْدَل (5) فَتْحِ اَرْدُن اور (6) فَتْحِ اَبْحَاذِيْنَ وغيرہ۔ مُنْكَرِينَ زَكَاةَ اور مُرْتَدِيْنَ كِي خِلاف فتوحات اس کے علاوہ ہیں۔ (2)

سوال ﴿﴾ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا وصال کب ہوا اور آپ کی نمازِ جنازہ کس نے پڑھائی؟

جواب ﴿﴾ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا وصال ۲۲ جمادی الاخریٰ ۱۳ سن ہجری مطابق ۲۳ اگست ۶۳۴ عیسوی بروز منگل ہوا اور آپ کی نمازِ جنازہ حضرت سَيِّدُنَا عَمْرُ فَاَرْوَق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے پڑھائی۔ (3)

1... فيضان صديق اكبر، ص ۳۶۲-۴۰۴-۳۷۸-۴۰۹۔

2... فيضان صديق اكبر، ص ۴۰۴-۴۱۳۔

3... فيضان صديق اكبر، ص ۴۶۸۔ سنن كبرى، ۵۵۷/۳، حديث: ۶۶۶۳۔

طبقات ابن سعد، ۱۵۲/۳۔ رياض النضرة، ۱/۲۵۸۔

سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

کس صحابی کی رائے کے موافق قرآن پاک کی کئی آیتیں نازل ہوئیں؟

جواب وہ صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہیں جن کی رائے کے موافق تقریباً 20 آیات طیبہ نازل ہوئیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ فرماتے ہیں: بے شک قرآن کریم میں حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی رائے کے موافق احکام موجود ہیں۔⁽¹⁾

حدیث پاک میں شانِ فاروق اعظم کس طرح بیان کی گئی ہے؟

جواب احادیث طیبہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے کثیر فضائل وارد ہیں جن میں ایک عظیم فضیلت حضور نبی کریم، رُووفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے یوں بیان فرمائی: ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔“⁽²⁾

حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی کنیت و لقب کیا ہے اور آپ کب پیدا ہوئے؟

جواب آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی کنیت ”ابو حفص“ اور لقب ”فاروق“ ہے۔ آپ عام الفیل کے تیرہ سال بعد مطابق ۵۸۳ عیسوی پیدا ہوئے۔⁽³⁾

حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو مژد اور رسول کیوں کہتے ہیں؟

جواب حضور رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے عزتِ اسلام کے لیے آپ

1... سير حلبية، باب الهجرة الاولى الى ارض الحبشة... الخ، 1/ 44-45.

2... ترمذی، کتاب المناقب، باب فی مناقب ابی حفص... الخ، 5/ 385، حدیث: 3806.

3... تاریخ الخلفاء، ص 108-114.

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُو بارِگَاهِ الْهَبِي سِے مَانْگَا تَهَا اور يِوِيں دَعَا فرمَائِي تَهِي: ”اے اللّٰهْ عَزَّوَجَلَّ! خُصُوصًا عُمَرَ بِنِ خَطَابِ كِے ذَرِيَعِے اِسْلَامِ كُو عِزْتِ عَطَا فرمـا۔“ (1)

حضرت سَيِّدُنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِے اِسْلَامِ اور مُسْلِمَانُوں كُو كِيسِے تَقْوِيَّتِ پِہنچَائِي؟

جواب: حضرت سَيِّدُنَا فَارُوقِ اعْظَمِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كِے اِسْلَامِ لَانِے كِے بَعْدِ حَضُورِ نَبِيِّ مَكْرَمٍ، شَفِيعِ مُعْظَمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِے مُسْلِمَانُوں كِے سَا تَهْ مِلِ كَرِ حَرَمِ مَكَّه ميں عَلَانِيَةً نِزَامِ ادا فرمَائِي، يِوِيں اَپ كِے قَبُولِ اِسْلَامِ سِے اِسْلَامِ وِ مُسْلِمَانُوں كُو تَقْوِيَّتِ حَاصِلِ هُوِي۔ (2)

حضرت سَيِّدُنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُو مُتَّبِعِيْمُ الْاَزْدِ بَعِيْنِ كِيوں كِہتِے هِيں؟

جواب: مُتَّبِعِيْمُ الْاَزْدِ بَعِيْنِ كَا مُطْلَبِ هِے كِه 40 كَا عِدْدِ پُورا كَرْنِے وَا لِے چُونَكِه حضرت سَيِّدُنَا عُمَرَ فَارُوقِ اعْظَمِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ چَالِيْسُوں مُسْلِمَانِ تَهِي لِهَذَا اَپ كُو اِس لِقْبِ سِے بَهِي يَادِ كِيا جَاتَا هِے۔ (3)

سَيِّدُنَا عُمَرَ فَارُوقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خَلِيْفَه كَبِ بِنِے اور كِتْنَا عَرَصَه خَلِيْفَه رِہِے؟

جواب: امير المومنين حضرت سَيِّدُنَا عُمَرَ بِنِ خَطَابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۲۲ جمادى الاخرى 13 سنِ هَجْرِي بَرُوزِ مُتْكَلِ مَنْصِبِ خِلَافَتِ پَرِ فَا نَزِ هُوِي۔ اَپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كِي خِلَافَتِ دَسِ سَالِ، پَانچِ مَاهِ اور اَكِيْسِ دِنِ رِہِي۔ (4)

1... ابن ماجه، كتاب السنة، فضل عمر بن الخطاب، 1/44، حديث: 105-

2... طبقات ابن سعد، ومن بني عدى بن كعب بن لؤي، عمر بن الخطاب، 3/203-

3... نوادر الاصول، الاصل العادى والاربعون والمائتان، 2/915، تحت رقم: 1209-

4... طبقات ابن سعد، عمر بن الخطاب، 3/208-248، رقم: 56-

سب سے پہلے ”امیر المؤمنین“ کس خلیفہ کو کہا گیا؟

جواب: سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو امیر المؤمنین کہا گیا۔⁽¹⁾

حضرت سیدنا عمر فاروقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رعایا کے ساتھ کیسا برتاؤ فرماتے؟

جواب: آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی عادتِ مبارکہ تھی کہ اپنی رعایا کی ہر وقت خبر گیری فرماتے رہتے، آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے اگر کوئی حاجت مند دکھائی دیتا تو اس کی مدد کرتے۔⁽²⁾

دورِ فاروقی میں کتنے شہر فتح ہوئے اور کتنی مساجد تعمیر ہوئیں؟

جواب: رَوْضَةُ الْأَحْبَاب میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے دور میں ایک ہزار چھتیس (1036) شہر مع مضافات فتح ہوئے، چار ہزار (4000) مساجد کی تعمیر ہوئی۔⁽³⁾

دورِ فاروقی کی کثیر فتوحات کا اندازہ کس چیز سے لگایا جاسکتا ہے؟

جواب: حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے مبارک دور میں مسلمانوں کی کثیر فتوحات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے عہدِ خلافت میں سلطنتِ اسلامیہ میں 13 لاکھ نو ہزار پانچ سو ایک مُرَبَّح میل کا اضافہ ہوا۔⁽⁴⁾

1... الادب المفرد، باب التسليم على الامير، ص ۲۶۲، رقم: ۱۰۲۳۔

2... فيضان فاروق اعظم، ۲/ ۱۲۰-۱۲۲۔

3... فتاویٰ رضویہ، ۵/ ۵۶۰۔

4... فيضان فاروق اعظم، ۲/ ۶۸۶۔

حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی شہادت کب ہوئی اور آپ کی نمازِ جنازہ کس نے پڑھائی؟

جواب نمازِ فجر میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کے حملے کے نتیجہ میں 63 سال کی عمر میں یکم محرم الحرام ۲۴ سن ہجری کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی شہادت ہوئی اور آپ کی نمازِ جنازہ حضرت سیدنا صہیب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے پڑھائی۔^(۱)

سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی کنیت و لقب کیا ہے اور آپ کب پیدا ہوئے؟

جواب امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی کنیت ابو عبد اللہ اور ابو عمرو ہے اور لقب ذُو النُّورَيْنِ ہے۔ آپ واقعہ فیل کے چھٹے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔^(۲)

حدیث میں حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی کیا فضیلت وارد ہوئی ہے؟

جواب امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے بہت سے فضائل احادیثِ طیبہ میں وارد ہوئے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سرکارِ دو عالم نورِ مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور

۱... طبقات ابن سعد، عمر بن الخطاب، ۳/۲۷۸-۲۸۰، رقم: ۵۶۔

۲... الرياض النضرة، جزء: ۲، ۳/۵۔ تہذیب الاسماء واللغات، ۲/۵۲۔ تاریخ الخلفاء، ص ۱۱۸۔

جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔^(۱)

حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اسلام کب قبول فرمایا؟

جواب: امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعَثَتْ نَبِيَّ كَيْ پھلے

سال اسلام لائے۔ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور چوتھے نمبر پر اسلام لائے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں: میں اسلام قبول کرنے والے چار اشخاص میں سے چوتھا ہوں۔^(۲)

دومرتبہ جنت خریدنے کا اعزاز کن صحابی کو حاصل ہے؟

جواب: حضرت سیدنا ابوہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان

غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضور نبی رحمت، مالک جنت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے دومرتبہ جنت خریدی، ایک بار بِرُّ رُومَہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور دوسری بار غزوہ تبوک کے لیے سامانِ جہاد فراہم کیا۔^(۳)

کس صحابی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ کی دو شہزادیاں آئیں؟

جواب: وہ خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہیں کہ آپ

کے نکاح میں پہلے حضرت سیدتنا زینب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور ان کے انتقال کے

بعد حضرت سیدتنا اُمّ کلثوم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا آئیں اور اسی وجہ سے آپ کو

۱... ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان، ۵/۳۹۰، حدیث: ۳۷۱۷۔

۲... اسد الغابۃ، ۳/۶۰۷۔ سیرت سید الانبیاء، ص ۷۳۔

۳... مسند بکر، کتاب معرفة الصحابة، باب اشتری عثمان الجنة... الخ، ۲/۶۸، حدیث: ۶۲۲۶۔

”ذُو النُّورَيْنِ (دونوروں والے)“ کہا جاتا ہے۔^(۱) جب حضرت اُمّ کلثوم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور تاجدارِ نُبُوَّتِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔“^(۲)

کس صحابی سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے؟

جواب: حدیث پاک میں ہے کہ (حضرت) عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔^(۳)

حضرت سَیِّدُنَا عِثْمَانِ غُفْنِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی سخاوت کی کوئی مثال بیان کیجئے؟

جواب: حضور اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے جب عَزْوَةُ ثَبُوكِ کی تیاری کیلئے لوگوں کو ترغیب دلائی تو سَیِّدُنَا عِثْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے عرض کی: ”یا رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! پالاں اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اُونٹ میرے ذمے ہیں۔ دوسری بار ترغیب دلانے پر 200 اور تیسری بار ترغیب دلانے پر 300 اونٹوں کی ذمہ داری لی۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور رحمتِ کونین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ منبر سے نیچے تشریف لائے اور دوبار ارشاد فرمایا: ”آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مُوَآخَذَہ نہیں۔“^(۴)

۱... تہذیب الاسماء واللغات، ۲/۵۲۔

۲... معجم کبیر، ۱۸۴/۱، حدیث: ۲۹۰۔ اسد الغابۃ، ۳/۶۰۷۔

۳... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان، ص ۱۳۰، حدیث: ۲۲۰۱۔

۴... ترمذی، کتاب المناقب، مناقب عثمان بن عفان، ۵/۳۹۱، حدیث: ۳۷۲۰۔

حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: دور صدیقی میں قرآنی سورتیں اگرچہ مُتَفَرِّق مَوَاقِع (جداگانہ مقامات

اور مختلف جگہوں) سے ایک مجموعہ میں مُجْتَمِع ہو گئی تھیں مگر ان جمع کیے گئے

مختلف صحائف کا ایک مُصْحَف میں نقل ہونا، پھر اس مُصْحَف کے نسخے کو اسلامی

ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں تقسیم کرنا وغیرہ کا کام اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے

امیر المومنین جامع القرآن ذُو النُّورَيْن سَيِّدُنَا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے

لیا اس لئے سَيِّدُنَا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔^(۱)

دور عثمانی کے بعض کارہائے نمایاں کے متعلق بتائیے؟

جواب: (۱) جمع قرآن (۲) مسجد حرام کی توسیع (۳) مسجد نبوی کی توسیع اور اس میں

مُنَقَّش (نیل بوٹے والے) پتھر لگانا (۴) ایران کے بہت سے شہروں کا فتح ہونا (۵)

روم کا وسیع رقبہ فتح کرنا (۶) پہلا بحری بیڑا تیار کر کے قُبْرُص پر حملہ کرنا اور اسے

اسلامی حکومت میں شامل کرنا۔ (۷) افریقہ کی فتح اور (۸) اُنْدُلُس کی فتح۔^(۲)

آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کب خلیفہ بنے اور آپ کا دورِ خلافت کتنے عرصے رہا؟

جواب: امیر المومنین حضرت سَيِّدُنَا عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کیم محرم 24 سن

ہجری کو خلیفہ بنے اور آپ کا دورِ خلافت 12 سال ہے۔^(۳)

حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی شہادت کب اور کیسے ہوئی؟

۱... فتاویٰ رضویہ، ۲۶/۳۵۰-۳۵۲ ماخوذاً۔

۲... تاریخ الخلفاء، ص ۱۵۳-۱۵۵۔

۳... تہذیب الاسماء واللغات، ۱/۲۹۸۔

جواب امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو ۱۸ ذوالحجہ الحرام ۳۵ سن ہجری کو تلاوت قرآن کی حالت میں شہید کیا گیا۔^(۱) آپ کے مبارک خون کے قطرے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر پڑے: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (پ ۱، البقرہ: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے ستمتاجانتا۔^(۲)

حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور آپ کا مزار پاک کہاں واقع ہے؟

جواب آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے پڑھائی اور آپ کا مزار پاک ”جنت البقیع“ میں ”حَشِّ كَوْكَب“ کے حصے میں ہے۔^(۳)

سیدنا علی المرتضیٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ

شان مولیٰ علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ میں نازل ہونے والی کوئی آیت بتائیں؟

جواب قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (پ ۲۹، الدھر: ۸) ترجمہ کنز الایمان: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ صدر الأفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم

① ... طبقات ابن سعد، عثمان بن عفان، ۲/۳، رقم: ۱۴۔

② ... طبقات ابن سعد، عثمان بن عفان، ۵۴/۳، رقم: ۱۴۔

③ ... طبقات ابن سعد، عثمان بن عفان، ۵۷/۳، رقم: ۱۴۔

الدرین مُراد آبادی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: یہ آیت حضرت علی مُرتضی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اور حضرت فاطمہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔^(۱)

آپ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ کی شان میں کچھ فرامین مُصْطَفَىٰ بیان کریں؟

جواب شانِ مُرْتَضَوِي میں تین فرامینِ مُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: (۱) جس کا میں مولیٰ ہوں علی بھی اس کے مولیٰ ہیں۔^(۲) (۲) میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں۔^(۳) (۳) علی کو دیکھنا عبادت ہے۔^(۴)

آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا نام، کُنْيَت اور لقب بیان فرمائیں نیز آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟

جواب آپ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ کی والدہ نے آپ کا نام ”حیدر“ رکھا۔^(۵) اور والد نے آپ کا نام ”علی“ رکھا۔^(۶)، کنیت ”أَبُو الْحَسَنِ اور أَبُو ثَرَاب“^(۷) اور ”أَسَدُ اللَّهِ“، ”مُرْتَضَىٰ“، ”كَرَّار“، ”شیرِ خُدا“ اور ”مولا مُشْكِ كُشَا“ اَلْقَابَات ہیں۔ آپ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ عَامُ الْفِيلِ کے 30 سال بعد 13 رجبُ الْمُرْجَب

①... خزائن العرفان، پ ۲۹، الدر، تحت الآية: ۸، ص ۱۰۷۳۔

②... ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب، ۳۹۸/۵، حدیث: ۳۷۳۳۔

③... مستدرک، کتاب معرفة الصحابة، باب انامدینة العلم وعلی بائبا، ۹۶/۲، حدیث: ۴۶۹۳۔

④... مستدرک، کتاب معرفة الصحابة، باب النظر الی علی عیادة، ۱۱۸/۲، حدیث: ۴۷۳۔

⑤... مسلم، کتاب الجهاد والسیر، باب غزوة ذی قرد وغیرها، ص ۱۰۰۵، حدیث: ۱۸۰۷۔

⑥... المجلسة وجواهر العلم، الجزء السابع، ۱/۳۵۰، رقم: ۹۰۴۔

⑦... ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب، ۳۹۷/۵۔

بروز جمعۃ المبارک مَکَّةُ الْبُکْرَةِ مَہ میں پیدا ہوئے۔⁽¹⁾

حضرت علی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے والدین کا نام بتائیں؟

آپ کے والد کا نام ابو طالب عبد مناف بن عبد المطلب اور والدہ کا نام حضرت

سَيِّدَةُ مُنَافَا طَمَہ بنتِ اَسَدِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ہے۔⁽²⁾

وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے پیارے آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی زیر کفالت تربیت پائی؟

حضرت علی كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ۔⁽³⁾

آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو ”شیرِ خدا“ اور ”مولائے کائنات“ کہے جانے کی وجہ بیان فرمائیں؟

آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو ”شیرِ خدا“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے آپ کو ”شیرِ خدا“ کا لقب عطا فرمایا ہے جبکہ ”مولائے کائنات“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسولِ پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے آپ کے متعلق فرمایا: ”جس کا میں مولیٰ ہوں علی بھی اس کے مولیٰ ہیں۔“⁽⁴⁾

وہ کون سے صحابی ہیں جن کو نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی؟

1... الاصابة في تمييز الصحابة ۲/ ۲۶۵۔ کراماتِ شیرِ خدا، ص ۱۲-۱۱

2... طبقات ابن سعد، الطبقة الاولى علي السابفة... الخ، علي بن ابي طالب، ۳/ ۱۳-۱۲

3... رياض النضرة، جزء: ۳، ۲/ ۱۰۹

4... رياض النضرة، جزء: ۱، ۱/ ۵۰۔ ترمذی، کتاب المناقب، مناقب علی بن ابي طالب، ۵/ ۳۹۸، حدیث: ۳۳۳-۳

جواب: حضرت مولائے کائنات مولیٰ علیٰ مشکَل کُشَا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ۔⁽¹⁾

وہ کون سے خلیفہ راشد ہیں جن کی والدہ اور زوجہ کا نام ایک ہی ہے۔

جواب: حضرت علی کَرِيمُ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم۔⁽²⁾

جب آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا نکاح شہزادی کُوْنَيْن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے ہوا اس

وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟

جواب: 21 سال پانچ ماہ۔⁽³⁾

شیرِ خدا کَرِيمُ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم کی تینوں خلفائے راشدین سے محبت کی کوئی

مثال بیان فرمائیں؟

جواب: آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی تینوں خلفائے راشدین سے محبت کا اندازہ اس بات سے

لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے اپنے 3 صاحبزادوں کے نام ان کے ناموں پر

”ابو بکر، عمر اور عثمان“ رکھے۔⁽⁴⁾

آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کب خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کتنے عرصے رہی؟

جواب: آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۱۹ ذوالحجۃ الحرام ۳۵ سن ہجری کو خلیفہ بنے اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی مدتِ خلافت 4 سال 8 ماہ 9 دن ہے۔⁽⁵⁾

1... تاریخ ابن عساکر، ۲/۱۲۱۔

2... طبقات ابن سعد، الطبقة الاولى علي السابفة... الخ، علي بن ابي طالب، ۳/۱۲۔

3... الاستيعاب، باب النساء وکناهن، فاطمة بنت رسول الله، ۲/۴۸۸۔

4... طبقات ابن سعد، الطبقة الاولى علي السابفة... الخ، علي بن ابي طالب، ۳/۱۲۔

5... طبقات ابن سعد، الطبقة الاولى علي السابفة... الخ، علي بن ابي طالب، ۳/۲۲۔ خلفائے راشدین، ص ۳۱۳۔

آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی شہادت کب اور کس طرح ہوئی نیز آپ کی نمازِ جنازہ کس نے پڑھائی؟

جواب: آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی شہادت 19 رمضان 40 سن ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم کے قاتلانہ حملے کی وجہ سے ہوئی اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔^(۱)

عَشْرَةٌ مُبَشِّرَةٌ

عَشْرَةٌ مُبَشِّرَةٌ کن کو کہتے ہیں؟

جواب: وہ دس صحابی جن کے قطع جنتی ہونے کی بشارت و خوشخبری رسولُ اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ان کی زندگی ہی میں سنادی تھی۔ ارشاد فرمایا: ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔^(۲)

کس صحابی نے اپنے اکثر بیٹوں کے نام حضراتِ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کے ناموں پر رکھے؟

جواب: حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے اکثر بیٹوں کے نام حضراتِ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کے ناموں پر ہیں۔^(۳)

①... طبقات ابن سعد، الطبقة الاولى علي السابقة... الخ، علي بن ابي طالب، ۳/۲۷۔

②... دس عقیدے، ص ۱۰۰۔ ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن... الخ، ۵/۱۶، حدیث: ۳۷۶۸۔

③... طبقات لابن سعد، الرقم: ۷۷، طلحہ بن عبید اللہ، ۳/۱۶۰۔

حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے نام بتائیے؟

جواب: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیارہ بیٹے تھے: (1) محمد (2) عمران (3) موسیٰ (4) یعقوب (5) اسماعیل (6) اسحاق (7) زکریا (8) یوسف (9) عیسیٰ (10) یحییٰ (11) صالح رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔⁽¹⁾

سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟

جواب: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔⁽²⁾

سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن کس رنگ کا عمامہ شریف باندھ رکھا تھا؟

جواب: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیلے رنگ کا عمامہ شریف باندھ رکھا تھا۔⁽³⁾

کس صحابی نے بارگاہ رسالت سے ”امین الامت“ کا لقب پایا؟

جواب: حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔⁽⁴⁾

حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام و نسب بتائیے؟

1... طبقات ابن سعد، الرقم: ۷۷۰، طلحہ بن عبید اللہ، ۱۶۰/۳۔

2... بخاری، کتاب المسافات، باب شرب الاعلیٰ قبل الاسفل، ۹۶/۲، حدیث: ۲۳۶۱۔

3... مستدرک، کتاب معرفة الصحابة، اول غزوة ذي الاسلام بدین، ۴۳۸/۲، حدیث: ۵۶۰۸۔

4... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب ابی عبیدہ... الخ، ۵۲۵/۲، حدیث: ۳۷۴۲۔

جواب ﴿عمر بن عبد اللہ بن جراح بن ہلال بن وہیب بن ضبہ بن نفیر بن مالک بن لفر بن کنانہ۔ (۱)﴾

سوال حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کس طرح کروایا؟

جواب ﴿حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہِ نبوت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم میں کون ہوں؟ حضور نبی غیب داں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم سعد بن مالک بن اہیب بن عبد مناف ہو اور جو اس کے علاوہ کوئی اور نسب تمہاری طرف منسوب کرے اس پر اللہ عزوجل کی لعنت ہو۔ (۲)﴾

سوال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زبان رسالت سے کیا دعائیں تھیں؟

جواب ﴿امم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ان کے لیے یوں دُعا فرمائی: اللہ عزوجل! سعد جب بھی تجھ سے دُعا کرے تو اس کی دُعا قبول فرما۔ (۳)﴾

فائدہ: اس دعائے نبوی کی برکت سے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات بن گئے اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اس سے متعلق واقعات جامع کرامات اولیاء میں مذکور ہیں۔ (۴)﴾

① ... مستدرک کتاب معرفۃ الصحابہ، ذکر مناقب ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، ۲/۲۹۵، حدیث: ۵۱۹۱۔

② ... مستدرک کتاب معرفۃ الصحابہ، باب ذکر مناقب ابی اسحاق بن ابی وقاص، ۲/۲۲۸، حدیث: ۲۱۲۶۔

③ ... ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب ابی اسحاق سعد... الخ، ۵/۲۱۸، حدیث: ۳۷۷۲۔

④ ... جامع کرامات الاولیاء، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ۱/۱۳۷۔

سیدنا سعید بن زید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی کنیت کیا ہے؟

جواب: آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی مبارک کنیت ”أَبُو الْأَعْمُوذ“ ہے۔ (1)

حضرت سیدنا سعید بن زید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کس کس غزوے میں شرکت فرمائی؟

جواب: آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ غزوہ بدر کے علاوہ اُحد، خندق وغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ (2)

کون سے صحابی کے سر پر رحمتِ عالمیاں، سردارِ دو جہاں صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے خود عمامہ شریف کا تاج سجایا تھا؟

جواب: حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ۔ (3)

حضور جانِ عالم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے کس نماز میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی اقتدا فرمائی تھی؟

جواب: نمازِ فجر میں۔ (4)

صحابہ کرام رَضَوْنَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

صحابی کسے کہتے ہیں؟

جواب: صحابی سے مراد جن وائس میں سے ہر وہ فرد ہے جس نے ایمان کی حالت میں

حضور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں

1... ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ۴/۱۶، حدیث: ۳۷۶۹۔

2... مستدرک، کتاب معرفة الصحابة، باب ذکر مناقب سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ۲/۵۲۶، حدیث: ۵۹۰۷۔

3... ابوداؤد، کتاب اللباس، باب فی العمامہ، ۳/۷۷، حدیث: ۷۰۷۹۔

4... مسلم، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الناصیۃ والعمامة، ص ۱۶۰، حدیث: ۲۷۷۲۔

ہی اُسے موت آئی۔ (1)

قرآن پاک میں صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کی کیا صفات بیان فرمائی گئی ہیں؟

جواب: اللہ عَزَّ وَجَلَّ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ

مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْتَدُّهُمْ كَعَسَجَدٍ ائْتَبَعُونَ فَضْلًا مِّنَ

اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَبَّأَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴿۲۶﴾ (پ ۲۶، الفتح: ۲۹) ترجمہ

کنز الایمان: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں

اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا

فضل و رضا چاہتے ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔

قرآن پاک میں صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کو کیا خوشخبری سنائی گئی ہے؟

جواب: صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کو رضائے الہی اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے،

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۱﴾ (البقرة: ۱۰۰) ترجمہ

کنز الایمان: اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لئے تیار کر

رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں یہی بڑی

کامیابی ہے۔

حضور رحمت عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے اصحاب کرام کے متعلق کیا

ارشاد فرمایا؟

جواب رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے کئی مواقع پر حضرات صحابہ کرام کی اہمیت و شان بیان فرمائی، چند فرامینِ مُقَدَّرَسہ ملاحظہ فرمائیے: (1) ”میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں۔“ (1) (2) ”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“ (2) (3) ”اگر تم میں کوئی اُحد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مُد (تھوڑی مقدار) بلکہ آدھا مُد خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔“ (3)

جواب حدیث مبارکہ میں دشمنانِ صحابہ کے متعلق کیا وعید آئی ہے؟

جواب حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو لعنتِ خداوندی کا مُسْتَحَق قرار دیا گیا۔ (4) اور ایک حدیثِ پاک میں صحابہ کرام کو اَزِیَّت دینے والے کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ (5)

جواب حضرات صحابہ کرام رَضْوَانُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟

جواب تمام صحابہ کرام (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) آقائے دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے جاں نثار، سچے غلام اور جنتی ہیں، ان کا ذکر عقیدت و محبت کے ساتھ کرنا فرض ہے،

1... مشکاة المصابیح، کتاب المناقب، باب مناقب الصحابة، ۲/۱۳، حدیث: ۶۰۱۲۔

2... مشکاة المصابیح، کتاب المناقب، باب مناقب الصحابة، ۲/۱۴، حدیث: ۶۰۱۸۔

3... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب قول النبی ”لو كنت متخذا خلیلاً“، ۲/۵۲۲، حدیث: ۳۶۷۳۔

4... معجم وسطی، من اسمہ عبد الرحمن، ۳/۳۳۶، حدیث: ۴۷۷۱۔

5... ترمذی، کتاب المناقب، باب فی من سب اصحاب النبی، ۵/۴۶۳، حدیث: ۳۸۸۸۔

ان کے متعلق برا خیال رکھنے والا بد مذہب گمراہ اور عذابِ نار کا حقدار ہے کہ جو ان پر زبان دراز کرے گویا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت و قدرت اور پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رَفْعَت و وَجاہت اور شانِ محبوبی پر اعتراض کرتا ہے، تابعین سے قیامت تک کوئی بھی اُمتی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ (1)

سب سے پہلے صحابی رسول کون ہیں؟

سب سے پہلے صحابی رسول بننے کا شرف آزاد مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ اور عورتوں میں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم کو حاصل ہے۔ (2)

وہ پہلے شہید کون ہیں جن کی نمازِ جنازہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پڑھائی؟

حضرت سیدنا امیر حمزہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ۔ (3)

راہِ خدا میں شہید ہونے والی سب سے پہلی صحابیہ کا نام بتائیے؟

اُمِّ عمار حضرت سیدتنا سہیلہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہَا۔ (4)

1... بہار شریعت، حصہ 1، 1/252-253۔ دس عقیدے، پانچواں عقیدہ، ص 44-48، 87، ملخصاً۔

2... خازن، پ 11، التوبہ، تحت الآیة: 2/243۔

3... اسد الغابۃ، حمزۃ بن عبدالمطلب، 2/40۔

4... اسد الغابۃ، سمیۃ ام عمان، 1/124۔

”غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ“ کون سے صحابی کا لقب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب وہ حضرت سیدنا خنظلہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہیں اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ جنگ میں شہادت کے بعد آپ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔^(۱)

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا اصل نام اور ”ابو ہریرہ“ سے مشہور ہونے کی وجہ بتائیے؟

جواب آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا اصل نام ”عبدُ اللهِ يا عبد الرحمن“ ہے۔^(۲) ایک دن حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ان کی آستین میں ایک بلی دیکھی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے انہیں ”يا اَبَاهُ رِيْرَةَ“ یعنی اے بلی والے! کہہ کر پکارا، اسی دن سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔^(۳)

حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے کس کی کُنِيْت ”ابو حمزہ“ رکھی تھی؟

جواب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی کُنِيْت ”ابو حمزہ“ رکھی تھی۔^(۴)

کون سے صحابی ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت فرما لیتے تھے؟

جواب حضرت سیدنا تمیم داری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ۔^(۵)

۱... الاصابية، حنظلة بن ابي عامر، ۱۱۹/۲

۲... الاكمال في اسماء الرجال، حرف النباء، فصل في الصحابة، ص ۲۲

۳... اسد الغابة، ابو هريرة، ۶/۳۳ بلخصاً۔

۴... الاستيعاب، انس بن مالك، ۱/۱۹۹۔

۵... الاكمال في اسماء الرجال، حرف النباء، فصل في الصحابة، ص ۵۸۸۔

اَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ

ازواجِ مطہرات کو ”اَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ“ کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: آقائے دو جہاں صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ازواجِ مطہرات کو ”امہات المؤمنین“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ازواجِ مطہرات کو مؤمنوں کی ماں قرار دیا ہے، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَزْوَاجَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (ب ۲۲، الاحزاب: ۶) ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں۔

امہات المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ کی تعداد کتنی ہے؟

جواب: امہات المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ کی تعداد میں اختلاف ہے مگر جن گیارہ پر سب کا اتفاق ہے، ان میں سے 6 قبیلہ قریش سے اور 4 عرب کے دیگر قبیلوں سے اور 1 بنی اسرائیل کے قبیلہ بنو نضیر سے تعلق رکھتی ہیں جن کے اسماء گرامی بالترتیب یہ ہیں: (1) حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خویلد (2) عائشہ بنت ابوبکر صدیق (3) حفصہ بنت عمر فاروق (4) أم حنیئہ بنت ابوسفیان (5) أم سلمہ بنت ابو امیہ (6) سودہ بنت زمعہ (7) زینب بنت جحش (8) میمونہ بنت حارث (9) زینب بنت خزیمہ (10) جویریہ بنت حارث اور (11) صفیہ بنت حیّی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ۔⁽¹⁾

کونسی ازواجِ مطہرات حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی حیاتِ ظاہری ہی میں انتقال فرما گئیں تھیں؟

1. سواہب لدنیۃ، المقصد الثانی، الفصل الثالث فی ذکر ازواجہ . . . الخ، ۱/ ۲۰۱-۲۰۲، ملقط۔

جواب ﴿ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ۔^(۱) اور حضرت سیدتنا زینب بنت خرمیمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا۔^(۲)

﴿ سب سے آخر میں انتقال فرمانے والی زوجہ مُحَرَّمَةٌ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا نام بتائیں؟

جواب ﴿ اُمہات المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ میں سب سے آخر میں حضرت اُم سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے انتقال فرمایا۔^(۳)

﴿ جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون ہیں؟

جواب ﴿ اُم المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء، حضرت سیدتنا مریم اور حضرت سیدتنا آسیہ بنت مرآحم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ۔^(۴)

﴿ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے پہلی وحی نازل ہونے کی خبر سب سے پہلے کس کو دی؟

جواب ﴿ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے پہلی وحی کے متعلق سب سے پہلے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو بتایا۔^(۵)

﴿ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی علمی فضیلت بیان کریں؟

جواب ﴿ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے کسی کو قرآن

۱... بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب تزویج النبی عائشہ، ۲/۵۸۹، حدیث: ۳۸۹۶۔

۲... مستدرک، کتاب معرفة الصحابة، ذکر ام المؤمنین زینب بنت خرمیمہ العامریہ، ۵/۴۴، حدیث: ۶۸۸۴۔

۳... الاصابہ، کتاب النساء، ام سلمة بنت ابی امیة، ۸/۴۰۷۔

۴... مستدرک، مستدرک عبد اللہ ابن عباس، ۱/۶۷۸، حدیث: ۲۹۰۳۔

۵... بخاری، کتاب بدء الوحي، باب: ۳، ۱/۷، حدیث: ۳۔

کریم کے معانی، حلال و حرام کے احکام، اہل عرب کے أشعار اور نُسبوں کے علم میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے زیادہ علم والا نہیں دیکھا۔^(۱)

سوال: ”اُمُّ الْمَسَاكِين“ کے لقب سے کونسی زوجہ محترمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مشہور تھیں؟

جواب: حضرت سیدتنا زینب بنت خزيمة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا۔^(۲)

سوال: اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سیدتنا اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا نام کیا ہے؟

جواب: آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا نام ”ہند“ ہے۔^(۳)

سوال: اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سیدتنا زینب بنت جحش رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا نام پہلے کیا تھا؟

جواب: آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا نام ”برہ“ تھا جسے حضور نبی مکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے تبدیل فرما کر ”زینب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا“ رکھا۔^(۴)

سوال: اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سیدتنا اُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا ادبِ رسول کیسا تھا؟

جواب: صَلَاحُ حَدِيثِيَّةٍ کے حوالے سے (قبولِ اسلام سے پہلے) حضرت ابوسفیان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

عَنْهُ مَدِينَةَ مُنَوَّرَةٍ آئے تو اپنی بیٹی اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سیدتنا اُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے

گھر پہنچ کر چاہا کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بستر پر بیٹھیں تو اُمُّ

الْمُؤْمِنِينَ نے انہیں بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور فرمایا: یہ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

①... حلیۃ الاولیاء، عائشۃ زوج رسول اللہ، ۲/۶۰، رقم: ۱۲۸۲۰۔

②... مستدرک، کتاب معرفۃ الصحابہ، ذکر ام المؤمنین زینب بنت خزيمة العامریۃ، ۵/۴۴، حدیث: ۶۸۸۴۔

③... الاصابۃ، کتاب النساء، ام سلمۃ بنت ابی اسبۃ، ۸/۴۰۴۔

④... مسلم، کتاب الاداب، باب استحباب تغییر الاسم القبیح الی حسن... الخ، ص ۱۱۸۲، حدیث: ۲۱۲۲۔

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَكْبِرُهُ بَسْتَرَهُ وَأُورِىَ نَجَاسَتِ شُرَكَاءِ مِنْ آلِهِ هَذَا
 مجھے آپ کا اس مُقَدَّس بستر پر بیٹھنا پسند نہیں۔^(۱)

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَتُنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَسَ قَوْمٌ مِنْ بَنِي قَوْمٍ مِنْ آلِهِ هَذَا
 آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بنی اسرائیل سے حضرت سیدنا ہارون عَلَيْهِ السَّلَام کی اولاد
 سے ہیں۔^(۲)

اهل بیت

قرآن پاک میں اہل بیت کی فضیلت میں کیا ارشاد ہوا؟
 ﴿اَلْقَابِ يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾
 (پ ۲۲، الاحزاب: ۳۳) ترجمہ کنز الایمان: اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو
 کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھر کر دے۔

اہل بیت کرام کی مُقَدَّس جماعت کن افراد پر مشتمل ہے؟
 اہل بیت میں نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ازواجِ مُطَهَّرَات اور حضرت
 خاتونِ جنتِ فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ اور حَسَنینِ کَرِیْمین رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ
 اَجْمَعِينَ سب داخل ہیں، آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے اور
 یہی حضرت امام ابو منصور ماثریدی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے منقول ہے۔^(۳)

① ... دلایل النبوة للبيهقي، جامع ابواب فتح مكة حرسها الله تعالى، باب نقص قریش، الخ، ۵/۸۔

② ... ترمذی، کتاب المناقب، باب فی فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۵/۲۷۲، حدیث: ۳۹۱۸۔

③ ... خزائن العرفان، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الآیة: ۳۳، ص ۸۰۔

اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟

جواب: فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اپنی اولاد کو تین باتیں

سکھاؤ (1) اپنے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت (2) اہل بیتِ رَضَوَانُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کی محبت اور (3) تلاوتِ قرآن۔⁽¹⁾

حضورِ اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اہل بیت کی تعظیم و حُرْمَت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟

جواب: حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہُ عَزَّوَجَلَّ کی تین حُرْمَتیں

ہیں جو ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا محفوظ رکھے اور جو ان کی حفاظت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہ فرمائے، عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وہ تین حُرْمَتیں کونسی ہیں؟ ارشاد فرمایا: ایک اسلام کی حُرْمَت، دوسری میری حُرْمَت، تیسری میری قرابت کی حُرْمَت۔⁽²⁾

اہل بیت کرام سے بدسلوکی کرنے والے کیلئے کیا وعید آئی ہے؟

جواب: فرمانِ مُصْطَفَی صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: جسے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت

ہو اللہُ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے بہرہ مند کرے تو اسے لازم ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، جو ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت اُڑ جائے اور قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر آئے۔⁽³⁾

1... جامع صغیر، حرف الہجزة، ص ۲۵، حدیث: ۳۱۱۔

2... معجم اوسط، باب الالف، من اسمہ احمد، ۴۳/۱، حدیث: ۲۰۳۔

3... کنز العمال، کتاب الفضائل، فضل اہل بیت، الفصل الاول، جزء ۱۲، ۶/۲۶، حدیث: ۳۴۱۶۶۔

قرابتِ مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی برکت بیان کیجئے؟

جواب: حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بر سرِ منبر فرمایا: ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسولُ اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی قرابت روزِ قیامت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی خدا کی قسم میری قرابت دنیا و آخرت میں پیوستہ ہے۔⁽¹⁾

سوال: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اہل بیت سے حسن سلوک کے متعلق کیا فرمایا؟

جواب: امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اپنی قرابت (رشتہ داروں) سے اچھا سلوک کرنے کے مقابلے میں مجھے حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی قرابت سے اچھا سلوک کرنا زیادہ پسند ہے۔ نیز فرمایا: تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی رضا مندی آپ کے اہل بیت سے محبت میں ہے۔⁽²⁾

سوال: خاتونِ جنت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا نام ”فاطمہ“ رکھے جانے کی حکمت بیان کریں؟

جواب: حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی۔⁽³⁾

1... مسند احمد، مسند ابی سعید الخدری، ۳۸/۲، حدیث: ۱۱۳۸۔

2... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب قرابۃ رسول اللہ... الخ، ۵۳۸/۲، حدیث: ۳۷۱۲-۳۷۱۳۔

3... کنز العمال، کتاب الفضائل، فصل اہل بیت، ۵۰/۶، جزء ۱۲، حدیث: ۳۲۲۲۲۔

شہزادی کو عین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَتُنَا عَائِشَةُ صَدِيقَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے محبت رکھنے کی ترغیب کس انداز سے دی گئی؟

جواب: حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سَيِّدَتُنَا فَاطِمَةُ زَهْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے فرمایا: اے فاطمہ! جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو گی؟ عرض کی: ضرور یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! میں محبت رکھوں گی۔ اس پر ارشاد فرمایا: تو عائشہ صَدِيقَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے محبت رکھو۔ (1)

سوال: حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو کونسی بیٹی سب سے زیادہ پیاری تھی؟

جواب: خاتونِ جنتِ حضرت سَيِّدَتُنَا فَاطِمَةُ زَهْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا۔ (2)

سوال: نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے کن کو اپنے دنیاوی پھول فرمایا؟

جواب: حضرت سَيِّدَنَا امامِ حسن اور حضرت سَيِّدَنَا امامِ حسین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کو۔ (3)

سوال: اہل بیت میں سے سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے مُشَابَهَت کون رکھتے تھے؟

جواب: حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے سب سے زیادہ مُشَابَهَت حضرت سَيِّدَنَا امامِ حسن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تھے۔ (4)

1... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فی فضل عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ص ۱۳۲۵، حدیث: ۲۲۲۲۔

2... ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ۵/۲۴۷، حدیث: ۳۸۲۵۔

3... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، ۲/۵۲۷، حدیث: ۳۷۵۳۔

4... بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، ۲/۵۲۷، حدیث: ۳۷۵۲۔

علماء و مجتہدین رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

مجتہد کسے کہتے ہیں؟

جواب مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات و رموز کو سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے اور اس سے مسائل نکال سکے، ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو۔ علم صرف و نحو، بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو، احکام کی تمام آیتوں اور حدیثوں پر اس کی نظر ہو۔^(۱)

عالم کسے کہتے ہیں؟

جواب عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات (حاجت کے مسائل) کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔^(۲)

قرآن کریم میں عالم کی شان کس طرح بیان ہوئی؟

جواب قرآن کریم میں کئی مقامات پر علم والوں کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (پ ۲۸، المجادلہ: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

حدیث شریف میں عالم کا کیا مرتبہ بیان کیا گیا ہے؟

جواب احادیث کریمہ میں علما کے کثیر فضائل و مراتب بیان ہوئے ہیں جن میں سے

۱... اعلیٰ حضرت سے سوال جواب، ص ۴۴۔

۲... ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ اول، ص ۵۸۔

ایک یہ بھی ہے کہ حضور نبی مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
اللہ عزوجل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اُسے دین کی سمجھ عطا فرماتا
ہے اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عزوجل عطا فرماتا ہے۔^(۱)

فقہ کے مشہور مذاہب کتنے ہیں اور ان کے پیشواؤں کے نام کیا ہیں؟

جواب: فقہ کے مشہور مذاہب چار ہیں: (۱) حنفی (۲) شافعی (۳) مالکی (۴) حنبلی۔ فقہ حنفی

کے پیشوا امام الائمہ کاشف العتمہ امام اعظم حضرت سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن
ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ فقہ شافعی کے پیشوا عارف باللہ حضرت سیدنا
امام محمد بن اور لیس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ فقہ مالکی کے پیشوا عالم
مدینہ امام دارالہجرت حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں
اور فقہ حنبلی کے پیشوا امام المحدثین حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ ہیں۔

دنیا میں کس فقہی مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں؟

جواب: دنیا میں حنفی مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں۔^(۲)

امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کب پیدا ہوئے اور وصال مبارک کب ہوا؟

جواب: آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سن ولادت 70 ہجری جبکہ سن وفات 150 ہجری ہے۔^(۳)

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سن ولادت اور سن وفات کیا ہے؟

①... بخاری، کتاب العلم، باب من یرد اللہ بہ... الخ، ۴۲/۱، حلیت: ۱۰۷۔

②... مرآة المناجیح، ۲/۳۸ ماخوذاً۔

③... نزهة القاری، ۱/۱۶۹۔

جواب: آپ کا سن ولادت 150 ہجری جبکہ سن وفات 204 ہجری ہے۔^(۱)

امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِي ولادت اور وفات کب ہوئی؟

جواب: آپ کا سن ولادت 164 ہجری جبکہ سن وفات 241 ہجری ہے۔^(۲)

امام مالک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كاسن ولادت ووفات کیا ہے؟

جواب: آپ کا سن ولادت 93 ہجری جبکہ سن وفات 179 ہجری ہے۔^(۳)

حضرت سیدنا امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كانا نام کیا ہے؟

جواب: آپ کا اسم گرامی یعقوب بن ابراہیم ہے۔^(۴)

امام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى پر فقہ میں سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟

جواب: حضرت سیدنا امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: فقہ میں مجھ پر سب سے

زیادہ احسان امام محمد بن حسن شیبانی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کا ہے۔^(۵)

اولیاء و صالحین رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى

ولیوں کے سردار سے مشہور ہستی کا نام کیا ہے اور ان کا مزار کہاں ہے؟

جواب: وہ مقدّس ہستی محبوب سبحانی، قطب ربّانی، غوثِ صمدانی حضورِ غوثِ پاک

ابو محمد عبدالقادر جیلانی قُدّس سرُّہُ الْکَلْبُورَانِی ہیں اور آپ کا مزار پُر اتوار عراق کے

①... سیر اعلام النبلاء، الامام الشافعی، ۳۷۹/۸، مرآة المناجیح، ۱/۱۳۔

②... مرآة المناجیح، ۱/۱۳۔

③... سیر اعلام النبلاء، مالک الامام، ۷/۳۸۳-۳۳۲۔

④... لسان المیزان، باب الکنی حرف الباء، من کتبتہ ابو یعلی و ابو یوسف، ۸/۶۲، رقم: ۱۰۹۰۴۔

⑤... تاریخ بغداد، محمد بن حسن، ۲/۷۳-۱۔

شہر بغداد میں ہے۔ (1)

حضور غوثِ پاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِي وِلادَت اور وصال كِب هُوا؟

جواب: حضور غوثِ پاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِيم رمضان المبارك 471ھ كو پيدا هونے

اور آپ نے 561ھ میں وصال فرمایا۔ (2)

”كَشْفُ الْمَحْجُوبِ“ كس بزرگ كِي كتاب هے اور يه كس موضوع پر هے؟

جواب: يه كتاب حضرت داتا گنج بخش سید ابوالحسن علی بن عثمان هجویری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى

عَلَيْهِ كِي هے اور اس كا موضوع تَصَوُّف هے۔

حضرت امام ربانی، مُجَبِّدِ الْوَالِفِ ثانی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي كَا اصل نام كيا هے؟

جواب: حضرت مُجَبِّدِ الْوَالِفِ ثانی ابوالبركات نقشبندی سرهندي كَا اصل نام شیخ احمد فاروقی

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي هے۔ (3)

فتنہ قادیانیت كے خلاف كس پیر صاحب نے قائدانه و مجاهدانه كردار ادا كيا؟

جواب: وه پیر صاحب ماه شریعت، مہر طریقت، تاجدارِ گولڑه حضرت پیر سید مہر علی شاہ

گیلانی چشتی نظامی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي هیں۔ (4)

كونسے بزرگ كو 30 سال تک منستے نهیں ديكھا گیا؟

1... طبقات كبرى، ابوصالح سیدی عبدالقادر الجیلی، 1/ 148-

2... بهجة الاسراء ذكر نسبه وصفته رضی الله تعالی عنه، ص 141-

طبقات كبرى للشعرانی، ابوصالح سیدی عبدالقادر الجیلی، 1/ 148-

3... تذکره مجدد الف ثانی، ص 1-

4... مہر منیر، ص 140- فیضان پیر مہر علی شاہ، ص 30-

جواب: حضرت فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُو 30 سال تک کسی نے ہنستے ہوئے

نہیں دیکھا مگر آپ اپنے بیٹے کے وصال پر مسکرا دیئے تھے۔^(۱)

حضرت ثابت بنانی قُدَسِ سِرُّهُ التُّورَانِي کی قبر سے کیا آواز آتی تھی؟

جواب: لوگوں کا بیان ہے کہ جب ہم حضرت سیدنا ثابت بنانی قُدَسِ سِرُّهُ التُّورَانِي کی قبر

کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی آواز آتی ہے۔^(۲)

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي کس کے مرید تھے؟

جواب: آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ حضرت شیخ الاسلام خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی

اجمیری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي کے مرید و خلیفہ تھے۔^(۳)

وہ کون سے بزرگ ہیں جو ننگے پاؤں رہا کرتے تھے؟

جواب: حضرت سیدنا بشر حافی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَلْبِي جوتے نہیں پہنا کرتے تھے۔ کسی نے

عرض کی: آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ ارشاد فرمایا: جس وقت میں نے اپنے

پروردگار عَزَّ وَجَلَّ سے صلح (یعنی توبہ) کی تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا لہذا

اب میں مرتے وقت تک جوتا نہیں پہنوں گا۔^(۴)

حضرت سیدنا معروف کرخی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِي کی قبر انور کی کیا برکت ہے؟

جواب: حضرت سیدنا محمد بن عبدالرحمن زہری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرماتے ہیں: میں نے

①... تذکرۃ الاولیاء فارسی، ۱/۸۶، ملخصاً۔

②... حلیۃ الاولیاء، ثابت البنانی، ۲/۳۱۵، رقم: ۲۵۸۳۔ شرح الصدور، باب احوال الموتی فی... الخ، ص ۱۸۸۔

③... سیر الاولیاء، ص ۱۰۵۔

④... روض الریاحین، الفصل الثانی فی اثبات کرامات الاولیاء، ص ۲۱۸۔

اپنے والد ماجد کو فرماتے سنا ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَنِي کی قبر انور پر تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔^(۱)

حضرت سیدنا داؤد طائی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي کس کے شاگرد تھے؟

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ امام الأئمہ، کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے شاگرد تھے اور 20 سال تک اُن کی خدمت میں رہے۔^(۲)

”طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں“ یہ کس کا فرمان ہے؟

خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَنِي فرمایا کرتے تھے: ”طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں“ یعنی لالچ مت کرو کہ کوئی دے اور اگر کوئی بغیر مانگے دے تو منع مت کرو اور جب لے لو تو جمع مت کرو۔^(۳)

امام اہلسنت، اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا تاریخی نام کیا ہے؟

۱۰ اشوال المکرم ۱۲۷۲ھ روز شنبہ (یعنی ہفتہ کے دن) وقت ظہر مطابق ۱۴ جون ۱۸۵۶ء کو ہوئی۔ اور آپ کا تاریخی نام ”المختار“ ہے۔^(۴)

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے آباء و اجداد کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟

امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے آباء و اجداد قندھار (افغانستان) کے

۱...روض الفائق، المجلس الرابع والثلاثون في مناقب معروف الكرخي، ص ۱۸۸۔

۲...تذکرۃ الاولیاء، ذکر ابی سلیمان داؤد الطائی، ص ۲۴۹۔

۳...سیدی قطب مدینہ، ص ۷۔

۴...سوانح امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت کاتب نامہ، ص ۹۵۔

باعظمت قبیلہ بڑی بیچ کے پٹھان تھے۔ (1)

امام اہلسنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُو كُنْتِي علوم و فنون پر مہارت حاصل تھی؟

جواب 100 سے زائد قدیم و جدید، دینی، ادبی اور سائنسی علوم پر امام اہلسنت رَحْمَةُ اللهِ

تَعَالَى عَلَيْهِ كُو دُشُرُص حاصل تھی۔ (2)

امام اہلسنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُو تصنیفات کی تعداد بیان کیجئے؟

جواب امام اہلسنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُو نے کم و بیش 1000 کتابیں تحریر فرمائیں۔ (3)

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُو شہرہ آفاق کتابوں میں سے کچھ کے نام بتائیں۔

جواب (1) قرآن کریم کا ترجمہ بنام ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ (2) فقہ حنفی کا

انسائیکلو پیڈیا بنام ”العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية“ جو ۳۳ جلدوں پر مشتمل

ہے۔ (3) فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ شامی پر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُو کے

حواشی بنام ”جَدُّ الْمُتَارِعِ عَلٰی رَدِّ الْمُحْتَارِ“ جو مکتبۃ المدینہ سے 7 جلدوں میں

شائع ہو چکے ہیں۔ (4) شہرہ آفاق نعتیہ کلام کا مجموعہ ”حدائق بخشش“۔

امام اہلسنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُو نے اپنی مشہور کتاب ”الدَّوْلَةُ النَّبَوِيَّةُ“ کتنے

گھنٹوں میں تصنیف فرمائی؟

جواب اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُو نے یہ کتاب اپنی خداداد یادداشت کے بل پر

تفاسیر، احادیث اور کُتُبِ ائمہ کی اصل عبارتوں کے حوالہ جات نقل فرماتے

1... سوانح نام احمد رضا، اعلیٰ حضرت کا نسب نامہ، ص ۹۳۔

2... عقیدہ ختم نبوت، ص ۱۵۹۔

3... فیضان اعلیٰ حضرت، ص ۵۶۶۔

ہوئے صرف ساڑھے آٹھ گھنٹے کے قلیل وقت میں تصنیف فرمائی۔^(۱)

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِي شان ميں ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا؟

شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا: ہندوستان کے دورِ آخر میں ان جیسا طَبَّاع

وَذِينِ فِقِيهٍ پيدا نہيں ہوا۔ ميں نے ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے یہ رائے قائم

کی ہے اور ان کے فتاویٰ ان کی ذہانت، فطانت، جودتِ طبع، کمالِ فقاہت اور

علومِ دینیہ میں تجرُّ علمی کے شاہدِ عدل ہیں۔^(۲)

امام اہلسنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِي سیرت کی کچھ جھلکیاں بیان کریں؟

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كے اکثر فراقِ مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ميں

غمگین رہتے اور سرد آہیں بھرا کرتے۔ غُرْبَا کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے،

بلکہ آخری وقت بھی عزیز واقارب کو وصیت کی کہ غُرْبَا کا خاص خیال

رکھنا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كے اکثر تصنیف و تالیف ميں لگے رہتے۔ پانچوں

نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ نماز باجماعت ادا فرمایا کرتے،

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كے خوراک بہت کم تھی۔^(۳)

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كے کوئی کرامت بیان کیجئے؟

جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كے فرماتے ہیں کہ میرے آقا

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كے ایک بار پہلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ

۱... سوانح امام احمد رضا، ص ۳۰۵۔

۲... امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات، ص ۳۷۰۔

۳... تذکرہ امام احمد رضا، ص ۱۳-۱۴، ملتقطاً۔

ریل جا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر جہاں گاڑی صرف دو منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے گاڑی ٹھہرتے ہی تکبیرِ اقامت فرما کر گاڑی کے اندر ہی نیت باندھ لی، غالباً پانچ شخصوں نے اقتدار کی ان میں بھی تھا لیکن ابھی شریکِ جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سبز جھنڈی ہلا رہا تھا، میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ لائنِ کلیئر تھی اور گاڑی چھوٹ رہی تھی، مگر گاڑی نہ چلی اور حضور اعلیٰ حضرت نے باطمینانِ تمام بلا کسی اضطراب کے تینوں فرض رکعتیں ادا کیں اور جس وقت دائیں جانب سلام پھیرا تھا گاڑی چل دی۔ مقتدیوں کی زبان سے بے ساختہ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ کہے گئے تھے، اس کرامت میں قابلِ غور یہ بات تھی کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ گارڈ نے ایک بزرگ ہستی کو دیکھ کر گاڑی روک لی ہوگی ایسا نہ تھا بلکہ نماز گاڑی کے اندر پڑھی تھی۔ اس تھوڑے وقت میں گارڈ کو کیا خبر ہو سکتی تھی کہ ایک اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محبوب بندہ فریضہ نماز گاڑی میں ادا کرتا ہے۔^(۱)

وہ کونسی چیز تھی جس کا اظہار اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے ہر قول و فعل سے ہوا کرتا تھا؟

جواب: عشقِ مُصْطَفَىٰ اور حمایتِ مذہب۔

1... تذکرہ امام احمد رضا، ص ۱۵-۱۶۔

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كے پیر و مرشد کا نام بتائیں نیز آپ کو خلیفہ بناتے وقت آپ کے پیر و مرشد نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟

جواب آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ آل رسول رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا: میں مُتَّفَكِّر تھا کہ اگر قیامت کے دن رَبُّ الْعِزَّت نے ارشاد فرمایا کہ آل رسول! تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا؟ تو میں کیا جواب دوں گا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ! آج وہ فکر دور ہو گئی مجھ سے رب تعالیٰ جب یہ پوچھے گا کہ آل رسول! تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا؟ تو میں مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔⁽¹⁾

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کا وصال کب ہوا تھا؟

جواب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے ۲۵ صفر ۱۳۳۰ھ مطابق ۲۸ اکتوبر ۱۹۲۱ عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن ۲ بجکر ۳۸ منٹ پر عین اذانِ جمعہ کے وقت وصال فرمایا۔⁽²⁾

امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ

امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی ولادت کس سنِ ہجری میں ہوئی؟

جواب آپ ۲۶ رمضان المبارک ۱۳۶۹ھ مطابق 1950ء کو پیدا ہوئے۔⁽³⁾

امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کا اسمِ گرامی اور عُرفی نام کیا ہے؟

جواب آپ دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کا اسمِ گرامی ”محمد“ اور عُرفی نام ”الیاس“ ہے۔⁽⁴⁾

1... فیضانِ اعلیٰ حضرت، ص ۳۱۷۔

2... سوانح امام احمد رضا، ص ۳۸۸۔

3... تعارفِ امیرِ اہلسنت، ص ۱۰۔

4... تذکرہ امیرِ اہلسنت، قسط 2، ص ۶۔

امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ کے نام کے ساتھ ضیائی نسبت کیوں لگائی جاتی ہے؟

جواب: خلیفہ اعلیٰ حضرت، قطبِ مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ کے مُرید ہونے کی نسبت سے ”ضیائی“ کہلاتے ہیں۔^(۱)

امیرِ اہلسنت مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي كِتَابًا عَرَصَهُ مَفْتِيٌّ عَظِيمٌ پاكستان مفتی وقار الدین قادری رضوی عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي کی صحبتِ بابرکت سے مُسْتَفِيض ہوتے رہے؟

مسلسل 22 سال۔^(۲)

امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ کو کن بزرگوں سے خلافت حاصل ہے؟

جواب: آپ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ کو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ، شارحِ بخاری مفتی شریف الحق امجدی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ، جانشینِ قطبِ مدینہ مولانا فضل الرحمن صاحبِ اشرفی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ اور دنیائے اسلام کے کئی اکابر علماء سے خلافت حاصل ہے۔^(۳)

جس دن امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ کا نکاح ہوا اُس دن کے کچھ معاملات بتائیں؟

جواب: اُس دن امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ نے نور مسجد میں نمازِ جمعہ ادا فرمائی، قبرستان بھی گئے، کھارادر میں واقع حضرت سید محمد شاہ دولہا رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت بھی حاصل کی اور ہسپتال جا کر اپنے ایک دوست کی عیادت بھی کی۔^(۴)

1... تذکرہ امیرِ اہلسنت، قسط 2، ص ۶۔

2... تعارف امیرِ اہلسنت، امیرِ اہلسنت کا شوقِ علم، ص ۱۸۔

3... تعارف امیرِ اہلسنت، ص ۴۳۔

4... تذکرہ امیرِ اہلسنت، قسط ۳، ص ۱۷، ملخصاً۔

امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ کا باجماعت نماز کی پابندی کا کوئی واقعہ بتائیں؟

جواب (امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ فرماتے ہیں) رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ کے کرم سے شروع سے ہی باجماعت نماز پڑھنے کا ذہن تھا، جماعت ترک کر دینا میری نعت میں ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس وقت گھر میں دوسرا کوئی مرد نہ تھا میں اکیلا تھا مگر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ ماں کی میت چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھانے کی سعادت پائی۔ ماں کے غم میں دورانِ نماز میرے آنسو زور بہہ رہے تھے مگر اس صورتِ حال میں بھی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ جماعت نہ چھوڑی۔^(۱)

امیرِ اہلسنت مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي سُنہری جالیوں کے زور و کیا دعائیں کرتے ہیں؟

جواب امیرِ اہلسنت مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي فرماتے ہیں: مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آقائے صَلَوَاتُہِ السَّلَام کے دربار سے کبھی دنیا کی ذلیل دولت کا مطالبہ کیا ہو بلکہ میں نے تو آقا صَلَوَاتُہِ السَّلَام کی یاد میں تڑپنے والا دل، آپ کے غم میں رونے والی آنکھیں اور ایمان و عافیت پر مدینہ شریف میں موت نصیب ہونے کی دعا کی ہے۔^(۲)

امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ کی بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب کا نام بتائیں؟

جواب فیضانِ سنت۔

امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ نے ایمانیات اور کفریات کے موضوع پر کون

سی کتاب تصنیف فرمائی ہے؟

① ... تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط ۳، ص ۱۹۔

② ... تعارف امیرِ اہلسنت، مال کی محبت سے پرہیز، ص ۵۲، ماخوذ۔

جواب آپ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ نے ایمانیات اور کفریات کے موضوع پر اردو زبان میں انتہائی ضخیم کتاب بنام ”کُفْرِيَه“ کلمات کے بارے میں سوال جواب“ تصنیف فرمائی ہے۔

جواب معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے اور باہمی عزت و احترام کی فضا ہموار کرنے کیلئے امیرِ اہلسنت نے کونسے رسائل تحریر فرمائے ہیں؟

جواب احترامِ مسلم، ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی، ساس بہو میں صلح کا راز، ناچاقیوں کا علاج، غصے کا علاج۔

جواب شیخِ طریقت امیرِ اہلسنت کے ”مدنی مذاکروں“ سے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟

جواب مدنی مذاکرے کی برکت سے لوگ گناہوں سے تائب ہو کر نہ صرف فرائض و واجبات کی پابندی کرنے لگ جاتے ہیں بلکہ مستحب اعمال کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔

ذکر و اذکار

جواب اذکارِ ماثورہ کسے کہتے ہیں؟

جواب ایسے کلمات اور دعائیں ہیں جو حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے منقول ہیں کہ ان کو خود حضور نے پڑھا، یا ان کے پڑھنے کا حکم دیا یا ان کو پڑھنے کی فضیلت یا فائدہ اور ثواب بتایا، ایسے کلمات اور دعاؤں کو ”اذکارِ ماثورہ“ کہتے ہیں۔^(۱)

①... بہشت کی کنجیاں، ص ۱۵۷۔

اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: حدیث پاک میں ہے: بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں یعنی ایک کم سو،

جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو۔⁽¹⁾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سب سے زیادہ محبوب چار کلمات کونسے ہیں؟

جواب: وہ کلمات یہ ہیں: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“۔⁽²⁾

افضل ذکر اور افضل دعا کیا ہے؟

جواب: افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور افضل دعا الْحَمْدُ لِلَّهِ ہے۔⁽³⁾

دن بھر میں 100 مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھے گا اُس کے تمام

گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔⁽⁴⁾

حدیث پاک میں کس کلمہ کو 99 بیماریوں کی دوا کہا گیا؟

جواب: عَمَلُكَ سَارٍ وَوَجْهًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا مَقَدَّسَ فَرْمَانُ هِيَ: ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

بِاللَّهِ“ 99 بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب سے کم دوا یہ ہے کہ اس کے

پڑھنے والے کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا۔⁽⁵⁾

1... بخاری، کتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشرط والاشترط والاشترط والاشترط... الخ، ۲/۲۲۹، حدیث: ۲۷۳۶۔

2... مشکاة المصابیح، کتاب الدعوات، باب ثواب التسبیح... الخ، ۱/۲۲۹، حدیث: ۲۲۹۴۔

3... مشکاة المصابیح، کتاب الدعوات، باب ثواب التسبیح... الخ، ۱/۲۳۱، حدیث: ۲۳۰۶۔

4... مشکاة المصابیح، کتاب الدعوات، باب ثواب التسبیح... الخ، ۱/۲۳۰، حدیث: ۲۲۹۶۔

5... مشکاة المصابیح، کتاب الدعوات، باب ثواب التسبیح... الخ، ۱/۲۳۴، حدیث: ۲۳۲۰۔

وہ کونسی تسبیح ہے جو حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت فاطمہ الزہراء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو بتائی تھی؟

جواب: حضورِ اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے فرمایا: سوتے وقت 33 بار ”سُبْحَانَ اللهِ“، 33 بار ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور 34 بار ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ پڑھ لیا کرو۔^(۱) اسے تسبیحِ فاطمہ کہتے ہیں۔

غصہ آنے، کُتے کے بھونکنے اور گدھے کے رینکنے پر کونسی دعا پڑھنی چاہئے؟

جواب: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔^(۲)

پڑھا ہوا یاد رکھنے کا کوئی وظیفہ بتائیے؟

جواب: منقول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک حرف بھی نہ بھولو تو پڑھنے سے پہلے یہ کہہ لیا کرو: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے عظمت و بزرگی والے! ہم پر اپنی حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔^(۳)

مصیبت زدہ کو دیکھ کر کونسی دعا پڑھی جائے؟

جواب: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَاقَبَنَا مِنْ اٰبَتْنَا بِهٖ وَفَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِيْلًا۔ یعنی

① ... بخاری، کتاب النفقات، باب خادم المرأة، ۵۱۶/۳، حدیث: ۵۳۶۲۔

② ... بخاری، کتاب الادب، باب العذر من الغضب، ۱۳۰/۴، حدیث: ۶۱۱۵۔

سنند احمد، مسند جابر بن عبد اللہ، ۳۴/۵، حدیث: ۱۴۲۸، ملقط۔

③ ... مستطرف، الباب الرابع في العلم والادب ... الخ، ۲۰/۱۔

تمام تعریفیں اُس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا اور اُس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ (۱)

شعارِ کفار (گرجا/ مندر وغیرہ) کو دیکھے یا آواز سے تو کونسی دعا پڑھے؟

جواب: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اِلَهًا وَّاحِدًا لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے ہم اُس کی عبادت کرتے ہیں۔ (۲)

مجلس کے اختتام پر کیا پڑھا جائے؟

جواب: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ (۳)

دروِ پاک

دروِ پاک سے متعلق قرآن پاک میں کیا ارشادِ خداوندی ہے؟

جواب: دروِ پاک سے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿اِنَّ اللّٰهَ وَ

مَلٰٓئِكَتُهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّؐ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا

① ... ترمذی، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا راى مبتلی، ۲۷۲/۵، حدیث: ۳۴۲۲۔

② ... ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ دوم، ص ۳۱۲۔

③ ... ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی کفارة المجلس، ۳۴۸/۲، حدیث: ۴۸۵۹۔

تَسْلِيًا ﴿۵۶﴾ ﴿پ ۲۲، الاحزاب: ۵۶﴾ تَرْجِبُهُ كَنْزُ الْاِيْمَانِ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔

درود پاک پڑھنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد ہوا؟

جواب: حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دُرُودِ پَاک پڑھا اللہ تعالیٰ اُس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔“ (۱)

درود پاک نہ پڑھنے والے کیلئے کیا وعید آئی ہے؟

جواب: حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اُس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ (۲)

صبح و شام کتنے کتنے ہزار فرشتے دربار رسالت میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں؟

جواب: رحمتِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے دربار میں 70 ہزار فرشتے صبح اترتے ہیں اور شام تک رہتے ہیں یونہی 70 ہزار شام میں اترتے ہیں جو اگلی صبح تک رہتے ہیں اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ (۳)

①... مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي، ص ۲۱۶، حدیث: ۴۰۹۔

②... الترغیب والنہیب، کتاب الذکر والدعا، باب الترغیب فی اکتان الصلاة... الخ، ۳۳۲/۲، حدیث: ۲۶۱۳۔

③... مشکاة المصابیح، کتاب احوال القیامة ویدء الخلق، باب الکرامات، ۴۰۱/۲، حدیث: ۵۹۵۵۔

نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے نامِ نامی اسمِ گرامی کے

ساتھ درود و سلام لکھنے کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: جس نے کتاب میں حضورِ اکرم، شَفِيعٌ مُعْتَمَدٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر درود

پاک لکھا جب تک آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا مبارک نام کتاب میں رہے

گافرشے اس کے لیے استغفار کرتے اور صبح و شام اُس پر درود بھیجتے رہیں گے۔⁽¹⁾

اگر نامِ اقدس لیا یا سنا مگر اس وقت درود نہ پڑھا تو اب کیا کرے؟

جواب: اگر اس وقت نہ پڑھا تو کسی اور وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔⁽²⁾

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے نامِ مبارک کے ساتھ پورا درود لکھنے کی

بجائے صرف ”صلعم“ لکھنا کیسا؟

جواب: یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔⁽³⁾

درود پاک کا اختصار (Shortcut) ایجاد کرنے والے کے ساتھ کیا کیا گیا؟

جواب: درود شریف کا اختصار ایجاد کرنے والے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔⁽⁴⁾

کس درود شریف کی برکت سے رحمت کے 70 دروازے کھلتے ہیں؟

جواب: جو شخص یہ درود پاک ”صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ“ پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70

دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔⁽⁵⁾

1... القول البدیع، الباب الخامس فی الصلاة علیہ فی اوقات مخصوصة، ص ۲۶۰-۲۶۱۔

2... در مختار و رد المحتار، کتاب الصلاة، مطلب: هل نفع الصلاة... الخ، ۲/۹۷-۲۔

3... فتاویٰ افریقہ، ص ۵۰۔ بہار شریعت، حصہ ۳، ۱/۵۳۴۔

4... تدریب الراوی، النوع الخامس والعشرون، الترضی علی الصحابة... الخ، ص ۲۸۴۔

5... القول البدیع، الباب الثانی، ص ۷۷، ۲، جذب القلوب، ص ۲۳۵۔

سوال: وہ کونسا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟

جواب: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَعَلٰى اٰلِهِ وَسَلَّمَ۔ (1)

سوال: وہ کونسا درود شریف ہے جسے ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے؟

جواب: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةَ دَائِمَةٍ بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ۔ (2)

سوال: وہ کونسا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا قرب نصیب ہوتا ہے؟

جواب: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ۔ (3)

بیعت و طریقت

سوال: تصوف و طریقت کسے کہتے ہیں؟

جواب: تصوف و طریقت یہ ہے کہ بندہ نفس کی بجائے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کے لیے زندہ ہو اور اپنے تمام اوقات میں روح و قلب کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف مُتَوَجِّہ رہے۔ (4)

سوال: صوفیا کا کیا مرتبہ و مقام ہے؟

1... افضل الصلوات علی سید السادات، الصلاة الحادية عشر، ص ۶۵۔

2... افضل الصلوات علی سید السادات، الصلاة الثانية والخمسون، ص ۱۴۹۔

3... القول البديع، الباب الاول، ص ۱۲۵۔

4... آداب مرشد کامل، ص ۱۱۹۔

جواب امام ابو القاسم قشیری عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: اللهُ تَعَالَى نے اس گروہ کو اپنے ہاں نمایاں حیثیت دی ہے، انہیں اپنے رسولوں اور نبیوں کے علاوہ تمام مخلوق پر برتری دے رکھی ہے، پوری امت میں سے صرف ان کے ہاں نورِ اسلام اترتا رہتا ہے۔^(۱)

تصوف کا انکار کرنا کیسا؟

جواب حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: اگر اس کے معانی و حقائق سے انکار ہے تو یہ انکارِ کل شریعتِ اسلامی کا انکار بن جائے گا صرف یہی نہیں بلکہ حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اخلاقِ حمیدہ اور خصائلِ جمیلہ اور اُسوۂ حَسَنَہ کا انکار بھی کہلائے گا۔^(۲)

شیخ و پیر بنانے کا فائدہ بیان کریں؟

جواب شیخ مرید کو تزکیہٴ نفس پر چلاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے لگتا ہے۔^(۳)

بیعت سے پیر اور مرید میں کیا تعلق قائم ہوتا ہے؟

جواب بیعت کے سبب پیر اور مرید میں روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ شیخِ روحانی اور معنوی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔^(۴)

۱... رسالۃ قشیریۃ، ص ۸۔

۲... کشف المحجوب، باب التصوف، ص ۴۲۔

۳... عوارف المعارف، الباب العاش، ص ۵۳ ملخصاً۔

۴... عوارف المعارف، الباب العاش، ص ۵۶ ملخصاً۔

مشائخ اور پیرانِ عظام کی خلافت سے کیا مراد ہے؟

جواب مرید اپنے شیخ سے علوم و احوال حاصل کرتے ہیں، پھر اسے دوسرے کی امانت میں دے دیتے ہیں اور وہ لوگ دوسروں کو اسی طرح فیض پہنچاتے ہیں جس طرح ان کو اپنے مشائخ کے ذریعہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے حاصل ہوا ہے، اسی عمل کا نام خلافتِ مشائخ ہے۔^(۱)

طریقت کے چار مشہور سلسلے کون سے ہیں؟

جواب چار مشہور سلسلے یہ ہیں: (۱) سلسلہ قادریہ (۲) سلسلہ نقشبندیہ (۳) سلسلہ چشتیہ (۴) سلسلہ سہروردیہ۔^(۲)

سلسلہ قادریہ کے پیشوا کون ہیں؟

جواب سلسلہ قادریہ کے پیشوا حضرت سیدنا غوثِ اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي هِيَ۔^(۳)

سلسلہ چشتیہ کے پیشوا کون ہیں؟

جواب برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کے پیشوا خواجہ معین الدین چشتی امجیری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي هِيَ۔

سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا کون ہیں؟

جواب سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤ الدین نقشبند رَحْمَةُ اللهِ

①... عوارف المعارف، الباب العاشر، ص ۵۵ - الباب الثانی عشر، ص ۶۱ ملخصاً۔

②... تاریخ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۲۔

③... مرآة الاسرار، ص ۷۸۔ اقتباس الانوار، ص ۵۷۔

تَعَالَى عَلَيْهِ هِيَ۔ (۱)

سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا کون ہیں؟

جواب: حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سہروردی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ۔ (۲)

اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے پیر کی کونسی شرائط بیان کی ہیں؟

جواب: مجددِ اعظم امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ایسے شخص سے بیعت

کا حکم ہے جو کم از کم یہ چاروں شرطیں رکھتا ہو: (۱) سنی صحیح العقیدہ ہو (۲) علم دین

رکھتا ہو (۳) فاسق نہ ہو (۴) اُس کا سلسلہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ تک متصل ہو۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہے تو اُس کے ہاتھ پر

بیعت کی اجازت نہیں۔ وَاللهُ تَعَالَى اعْلَمُ (۳)

مُقَدَّس مَقَامَات

حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی مکہ مکرمہ کیلئے مانگی گئی قرآنی دعائیں؟

جواب: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْحُقْ أَهْلَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ آمَنَ

مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (پ ۱، البقرة، ۱۲۶) ترجمہ کنز الایمان: ”اور جب عرض

کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں

کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان

①... مرآة الاسرار، ص ۷۹۔ اقتباس الانوار، ص ۵۸۔

②... عوارف المعارف مترجم، مقدمہ، ص ۷۳۔ فتاویٰ رضویہ، ۲/۱، ۳۸۹، ۵۳۵، ۵۲۵، ۵۲۴، ۵۲۳۔

③... فتاویٰ رضویہ، ۲/۱، ۶۰۳۔

لائیں۔ ”اور سورۃ ابراہیم میں آپ عَلَیْهِ السَّلَامُ کی یہ دعا مذکور ہے: ﴿وَإِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ ۖ هَذَا الْبَلَدُ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا ضَمَامَ ۗ ﴿۱۳﴾ (ب ۱۳، ابراہیم:
۳۵) ترجمہ کنز الایمان: ”اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر
کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔“

پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مدینہ منورہ کیلئے کیا دعا فرمائی؟

جواب: آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یا اٰلہی عَزَّ وَجَلَّ! جس طرح تو نے
مکہ مکرمہ کو ہمارا محبوب بنایا اسی طرح مدینہ منورہ کو بھی ہمارا محبوب بنا دے۔^(۱)

حضرت داؤد عَلَیْہِ السَّلَام نے بَیْتِ الْمُقَدَّس کی بنیاد کس جگہ پر رکھی تھی؟

جواب: ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا خیمہ گاڑا گیا تھا اُس جگہ
حضرت داؤد عَلَیْہِ السَّلَام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔^(۲)

حدیث پاک میں جبلِ اُحُد کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟

جواب: حضور جانِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: اُحُدٌ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّہُ
یعنی یہ اُحُد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔^(۳)

مسجدِ قِبْلَتَیْن میں کونسا مشہور واقعہ رونما ہوا تھا؟

جواب: اسی مسجد شریف میں تحویلِ قبلہ کی آیت نازل ہوئی اور بَیْتِ الْمُقَدَّس کی بجائے
بَیْتُ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔^(۴)

۱... بسند احمد، بسند الانصار، حدیث ابنی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ، ۳۸۲/۸، حدیث: ۲۲۶۹۳۔

۲... تفسیر مدارک، پ ۲۲، سبأ تحت الآیة: ۱۲، ص ۹۵۹۔

۳... معجم اوسط، ۳۷/۵، حدیث: ۶۵۰۵۔

۴... تفسیر بغوی، پ ۲، البقرة، تحت الآیة: ۱۲۴، ۸۵/۱۔

سَرَوْرِ انبیا، محبوبِ کبریا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جِجَّۃُ الوداع تشریف لے جاتے وقت کس مقام پر دو رکعت نماز ادا فرمائی؟

جواب ﴿ ذُو الخَلِیْفَہ ”پہنچے تو وہاں مسجد میں دو رکعت پڑھیں۔ (۱)﴾

”مسجدِ اِجابہ“ کے مقام پر حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کونسی تین دعائیں مانگی تھیں؟

جواب ﴿ وہ دعائیں یہ تھیں: (۱) یا اللہُ عَزَّوَجَلَّ! میری اُمت تَحَطُّ سالی کے سبب ہلاک نہ ہو۔ (۲) یا اللہُ عَزَّوَجَلَّ! میری اُمت پانی میں ڈوب کر ہلاک نہ ہو اور (۳) یا اللہُ عَزَّوَجَلَّ! میری اُمت آپس میں نہ لڑے (پہلی دو دعائیں قبول ہوئیں اور تیسری سے روک دیا گیا)۔ (۲)﴾

﴿ مسجدِ بنی حرام کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟﴾

جواب ﴿ یہ وہی مسجد ہے جہاں آقائے دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تین معجزات ظاہر ہوئے: (۱) ایک بکری میں بہت سارے صحابہ کرام کا پیٹ بھر گیا۔ (۲) بکری کی ہڈیوں پر دستِ مبارک رکھ کر کچھ پڑھا تو بکری زندہ ہو گئی۔ (۳) حضرت سیدنا جابر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ کے فوت شدہ دو مدنی منے امام الانبیاء صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دُعا سے زندہ ہو گئے۔ (۵)﴾

① ... مسلم، کتاب الحج، باب الصلاة فی مسجد ذی الخلیفہ، ص ۲۰۶، حدیث: ۱۱۸۸۔ تاریخ بدینہ سنوہ، ص ۵۰۱-۵۰۲۔

② ... مسلم، کتاب الفتن و اشراط الساعة، باب هلاک هذه الامة بعضهم ببعض، ص ۱۵۴۳، حدیث: ۲۸۹۰۔

③ ... خصائص کبری، باب آیاتہ فی احياء الموتی و کلامہم، ۱۱۲/۲۔

④ ... خصائص کبری، باب آیاتہ فی احياء الموتی و کلامہم، ۱۱۲/۲۔

⑤ ... شواہد النبوة، ص ۱۰۵۔ مدارج النبوت، ۱/۱۹۹۔

مسجد مُسْتَرَح کو اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟

جواب: سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے غزوہٴ اُحُد کے موقع پر یہاں پر آرام فرمایا تھا اسی لئے اسے مسجدِ مُسْتَرَح کہتے ہیں۔^(۱)

حضرت سیدنا ہارون عَلَیْهِ السَّلَام کا مزارِ پُرَانُوں کہاں واقع ہے؟

جواب: آپ عَلَیْهِ السَّلَام کا مزارِ مبارک جَبَلِ اُحُد پر واقع ہے (لیکن اب اس کی زیارت بے حد مشکل ہے)۔^(۲)

صفا و مَرَّوہ پہاڑوں کو اتنی عزت و عظمت کیوں ملی؟

جواب: ان پہاڑوں پر حضرت ہاجرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ پانی کی تلاش میں سات بار چڑھیں اور اتریں۔ اس اللہ والی کے قدم پڑ جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ شَعَائِرُ اللّٰهِ (اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی نشانیاں) بن گئے اور تاقیامت حاجیوں پر اس پاک بی بی کی پیروی میں ان پر چڑھنا اور اترنا سات بار لازم ہو گیا۔^(۳)

جہاں ”مسجد ذُو الْحَلِيفَةِ“ قائم ہے وہ مقام آج کل کس نام سے مشہور ہے؟

جواب: اس مقام کو آج کل ”بیر علی“ یا ”ابیار علی“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔^(۴)

دَعْوَتِ اِسْلَامِي كَاتَعَارِف

دَعْوَتِ اِسْلَامِي كے بَانِي كُون هِيں؟

①... وفاء الوفاء، الباب الغاسس في مصلی النبی فی الاعیاد... الخ، الفصل الرابع فی المساجد النبی... الخ، ۲/ ۸۶۵۔

②... عاشقان رسول کی 130 حکایات، ص ۳۲۲۔

③... علم القرآن، تقویٰ، ص ۴۸، ملخصاً۔

④... رد المحتار کتاب الحج، مطلب فی المواقیت، ۳/ ۵۴۹۔ بہار شریعت، حصہ ۱، ۱/ ۱۰۶۷۔

جواب تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ کے بانی شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ ہیں۔

سوال امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ نے دعوتِ اسلامی کا مدنی کام کس سن میں شروع فرمایا؟

جواب ۱۴۰۱ھ مطابق 1981ء۔⁽¹⁾

سوال دعوتِ اسلامی کا پیغام اب تک کتنے ممالک میں پہنچ چکا ہے؟

جواب اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! تقریباً 200 سے زائد ممالک میں۔

سوال دعوتِ اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے؟

جواب ”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ۔

سوال دعوتِ اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کتنے آراکین پر مشتمل ہے؟

جواب دعوتِ اسلامی کی مجلس شوریٰ فی الوقت 26 آراکین پر مشتمل ہے۔

سوال مدنی انعامات و مدنی قافلہ سے کیا مراد ہے؟

جواب مدنی انعامات سے مراد امیرِ اہلسنت مَدَّ ظِلُّہُ الْعَالِیٰ کی جانب سے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، جامعات المدینہ و مدارس المدینہ کے طلباء و طالبات اور مدنی منوں کو عطا کردہ سوالات پر مشتمل وہ رسائل ہیں جن کے مطابق عمل کر کے

نیکویوں میں اضافہ اور گناہوں سے بچا جاسکتا ہے جبکہ مدنی قافلے سے مراد عاشقانِ رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت اور علمِ دین کے حصول کے لئے مختلف مقامات پر سفر کرنا ہے۔

مدنی حلیہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: واڑھی، زلفیں، سر پر سبز سبز عمامہ شریف (سبز رنگ گہرا یعنی ڈارک نہ ہو) کھلی والا سفید کُرتا سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک لمبا، آستینیں ایک بالشت چوڑی، سینے پر دل کی جانب والی جیب میں نمائیاں مسواک، پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر۔ (سر پر سفید چادر اور پردے میں پردہ کرنے کیلئے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتنی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ) (1)

دعوتِ اسلامی کا آؤ لین مدنی مرکز کہاں تھا؟

جواب: جامع مسجد گلزار حبیب، گلستانِ اوکاڑوی، سو لجر بازار باب المدینہ (کراچی)۔

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے کا نام کیا ہے؟

جواب: مکتبہ المدینہ، جو اب تک 527 سے زائد کتب و رسائل شائع کر چکا ہے۔

دعوتِ اسلامی کتنے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے؟ سات کے نام بتائیے؟

جواب: تادم تحریر و دعوتِ اسلامی 102 شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے، جن میں سے سات یہ ہیں: (1) دارالافتاء اہلسنت (2) المدینۃ العلمیۃ (3) جامعۃ المدینہ (4) مجلس تراجم (5) مجلس تحقیقات شرعیہ (6) مدنی چینل (7) مجلس آئی ٹی۔

مجلس خدام المساجد کس مقصد کے تحت قائم کی گئی؟

جواب: امیر اہلسنت دامت بركاتہم العالیہ کی تمنا ہے کہ ہماری مساجد آباد ہو جائیں، ان کی رونقیں پلٹ آئیں اور پرانی مساجد آباد کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نئی مساجد بھی تعمیر کی جائیں، اس ضمن میں ”مجلس خدام المساجد“ قائم کی گئی۔^(۱)

مدنی تربیتی کورس کتنے دن کا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟

جواب: یہ کورس 63 دن کا ہوتا ہے جس کا مقصد مبلغین کی تیاری اور ان کی تربیت ہے۔^(۲)

① ... دعوت اسلامی کا تعارف، ص ۱۱۔

② ... دعوت اسلامی کا تعارف، ص ۳۹ ماخوذ۔

”اخلاص کا نور“ کے دس (10) حروف کی نسبت سے دس مدنی پھول

- (1) یہ سلسلہ 6 مراحل (Segments) پر مشتمل ہو گا۔
- (2) دو ٹیمیں (ٹیم مکی اور ٹیم مدنی) ہوں گی۔
- (3) ہر ٹیم میں کل تین اسلامی بھائی ہوں گے اس طرح کل چھ اسلامی بھائی ہوں گے۔
- (4) ہر سوال کا جواب 25 سیکنڈ کے اندر دینا ہو گا 25 سیکنڈ کے بعد جواب دینے پر نمبر نہیں ملیں گے۔ جبکہ سمجھائیے مگر اشاروں سے میں 41 سیکنڈ دیئے جائیں گے۔
- (5) ہر سوال کے دو (2) نمبر ہیں۔
- (6) ”سمجھائیے مگر اشاروں سے“۔ اس مرحلے میں جو اشارے ہیں وہ امیر اہلسنت دامت بركاتہم انعالیہ کے رسائل کے نام یا مقدّس اشیاء یا کوئی حکایت ہوں گی لیکن ان تمام اشاروں میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ اس کا اشارہ بھی بن سکتا ہو۔
- (7) ہر مرحلے میں ٹیم کے اسلامی بھائی آپس میں مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں سوائے ”سفر ہے مگر اکیلے“ مرحلے کے کہ اس مرحلے میں بغیر مشورہ کئے ہی جواب دینا ہو گا اور اس میں ٹیم مکی کا ایک اسلامی بھائی ٹیم مدنی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ یعنی درمیان میں کھڑا ہے گا اسی طرح ٹیم مدنی کا ایک اسلامی بھائی ٹیم مکی کے اسلامی بھائیوں کے درمیان میں۔
- (8) تمام سوالات نصاب سے کئے جائیں گے سوائے ”سفر ہے مگر اکیلے“ مرحلے کے۔

اس مرحلے میں پوچھے جانے والے سوالات وہ ہوں گے جو عام طور پر مدنی مذاکرے یا مدنی ماحول والے یا کثرت سے مطالعہ کرنے والے اسلامی بھائی جانتے ہیں۔

(9) ”جوش کیساتھ مگر ہوش سے“ کے مرحلے میں بزر (Buzzer) لگایا جائے گا اور

اس میں جس اسلامی بھائی نے پہلے بزر (Buzzer) دیا یا اسی کو جواب دینے کا موقع دیا جائے اور غلط جواب پر دو (2) نمبر منہا (کم) کر دیئے جائیں گے۔

(10) سلسلے میں دلچسپی پیدا کرنے کیلئے ناظرین یا حاضرین سے بھی سوالات کئے جائیں گے۔

مراحل کی تفصیل

(1) علم نور ہے۔ اس مرحلے میں ٹیم کی اور ٹیم مدنی دونوں سے پانچ پانچ سوالات کئے جائیں گے۔

(2) عشق کے بول۔ اس مرحلے میں ٹیم کی اور ٹیم مدنی دونوں سے پانچ پانچ اشعار پوچھے جائیں گے۔

(3) قرآنی معلومات۔ اس مرحلے میں ٹیم کی اور ٹیم مدنی دونوں سے تین تین سوالات کئے جائیں گے۔

(4) سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ اس مرحلے میں دونوں ٹیموں کے تین تین اشارے ہوں گے یعنی ٹیم کا ایک اسلامی بھائی آکر اپنی ٹیم کے اسلامی بھائیوں کو اس کا اشارہ کر کے بتائے گا اور ٹیم کو اشارے کی مدد سے اس نام تک پہنچنا ہو گا۔

- (5) سفر ہے مگر اکیلے۔ اس مرحلے میں ہر اسلامی بھائی سے ایک ایک سوال ہو گا۔
 (6) جوش کیساتھ مگر ہوش سے۔ اس مرحلے میں 5 اشعار اور 5 سوالات ہوں گے۔

(۱) علم نور ہے۔ (۲۹۱)

ذبح میں کائی جانے والی چار رگوں کے نام بتائیے؟

جواب: وہ چار رگیں یہ ہیں: (1) خَلْقُوم، (2) مَرْمِی اور (3-4) وَوَجْجِن۔

نکاح میں کون سے اُمور کا لحاظ رکھنا مُسْتَحَب ہے؟

جواب: نکاح میں یہ اُمور مُسْتَحَب ہیں: (1) علازیمہ ہونا (2) نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا

(3) مسجد میں ہونا (4) جمعہ کے دن (5) گواہانِ عادل کے سامنے (6) عورت

عمر، حسب (خاندانی شرف)، مال، عزت میں مرد سے کم ہو اور (7) چال چلیں

اور اخلاق و تقویٰ و جمال میں بیش (یعنی زیادہ) ہو۔

یَمین یعنی قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب: قسم کی تین قسمیں ہیں: (1) غَمُوس (2) لَعْوُوز (3) مُسَعِّقَہ۔

لُقْطَہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: لُقْطَہ اس مال کو کہتے ہیں جو کہیں پڑا ہو اہل جائے۔

کونسی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟

جواب: مروی ہے کہ ”الْمَسْجِدُ حِصْنٌ حَصِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ“ یعنی مسجد شیطان سے بچنے

کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔“

۱۱۔ اہل علم اور علم سے (مجموعی)

مسجد میں کونسی بدبودار چیزوں کی ممانعت ہے؟

جواب (1) کچا لہسن (2) کچی پیاز (3) گندنا (یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے) (4) موی (5) کچا گوشت (6) مٹی کا تیل (7) وہ دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو (8) ریاح خارج کرنا (9) بدبودار زخم (10) کوئی بدبودار دوا لگانا۔

سب سے بہتر کمائی کونسی ہے؟

جواب حضورِ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے بہتر غذا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنی کمائی سے کھاتے تھے۔

سود سے بچنے کے کوئی دو علاج بیان کیجئے؟

جواب (1) انسان قناعت اختیار کرے، اس طرح وہ مال کی حرص سے بچے گا اور حرام ذرائع اختیار نہیں کرے گا۔ (2) ہر دم موت کو یاد رکھا جائے، جب یہ سوچ بن جائے گی کہ مرنا ہے اور موت کا کوئی بھروسا نہیں کب آجائے تو حرام روزی کی طرف بڑھنے سے رکنانصیب ہو جائے گا (ان شاء اللہ عزوجل)۔

پیٹ کا قفلِ مدینہ کسے کہتے ہیں؟

جواب اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانا اور حلال خوراک بھی بھوک سے کم کھانا ”پیٹ کا قفلِ مدینہ“ لگانا ہے۔

حدیث پاک میں مہمان کے اکرام کی اہمیت کس طرح بیان ہوئی ہے؟

جواب: رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ عزوجل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اُسے چاہئے کہ (1) وہ مہمان کا اکرام کرے (2) اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے اور (3) وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے۔

(۱) اشعار مکمل کیجئے (پہلی)

کاش! طیبہ میں شہادت کا عطا ہو جائے جام
 جلوہ محبوب میں انجام میرا ہو بخیر (وسائل بخشش، ص ۲۳۳)
 اُمّتِ محبوب کا یارب بنادے خیر خواہ
 نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہونہ بخیر (وسائل بخشش، ص ۲۳۳)
 اکثر مرے ہونٹوں پہ رہے ذکرِ محمد
 اللہ زباں کا ہو عطا قُفْلِ مدینہ (وسائل بخشش، ص ۹۳)
 آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر
 آنکھوں پہ مرے بھائی لگا قُفْلِ مدینہ (وسائل بخشش، ص ۹۳)
 اللہ کرم اتنا گنہ گار پہ فرما
 جنت میں پڑوسی مرے آقا کا بنا دے (وسائل بخشش، ص ۱۱۲)

(۲) اشعار مکمل کیجئے (دوم)

اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت
 بدکار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے (وسائل بخشش، ص ۱۱۲)

بائیں رستے نہ جا مسافر سن
 مال ہے راہ مار پھرتے ہیں (حدائق بخشش، ص ۱۰۰)
 رکھے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم
 مول کے عیب دار پھرتے ہیں (حدائق بخشش، ص ۱۰۰)
 وردیاں بولتے ہیں ہر کارے
 پہرہ دیتے سوار پھرتے ہیں (حدائق بخشش، ص ۱۰۰)
 آہ کل عیش تو کیے ہم نے
 آج وہ بے قرار پھرتے ہیں (حدائق بخشش، ص ۹۹)

۳) قرآنی معلومات (سوال جواب)

کس آیت میں امتِ محمدیہ کو سب سے بہتر امت فرمایا گیا ہے؟

جواب ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (ب، ۴، ال عمران: ۱۱۰) ترجمہ کنز الایمان: تم بہتر ہو ان سب
 امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے منع
 کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے؟

جواب حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے
 قدموں، سینے، پیٹ یا پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو یہ سب اعضاء
 کہیں گے تیرے لئے ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں

سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔

سوال: وہ کونسا خوش نصیب ہے جو اپنے گھر کے دس افراد کی شفاعت کرے گا؟

جواب: جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا۔ اس کے گھر والوں میں سے دس شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔

(3) قرآنی معلومات (ممبروں کی)

سوال: قرآن پاک کی کونسی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟

جواب: سب سے آخر میں سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿وَآتَيْنَا مَا تَرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (پ، البقرہ: ۲۸۱) ترجمہ کنزالایمان: اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھر وگے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے کی فضیلت چوتھائی قرآن کے برابر ہے؟

جواب: حدیث پاک میں ہے: جس نے سورت قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی۔

سوال: ہر بُری چیز سے حفاظت کیلئے کونسی سورتوں کی تعلیم فرمائی گئی ہے؟

جواب: نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: صبح شام تین تین بار قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھو! ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بُری چیز سے بچائے گا۔

(۴) سمجھائیے مگر اشاروں سے (نیم نئی)

- (1) خاکِ مدینہ
- (2) خوفناک جادوگر
- (3) تین انگلیوں سے کھانا

(۵) سمجھائیے مگر اشاروں سے (نیم نئی)

- (1) بکری کی کھال
- (2) پتلا جن
- (3) انار کا درخت

(۶) سفرِ ہجرت سے مگر اکیلے (نیم نئی)

سوال: سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟

جواب: سب سے آخر میں حضرت مَلِکُ الْمَوْتِ عَلَیْہِ السَّلَامُ کو موت آئے گی۔

سوال: دار و غرہ جنت کا نام بتائیں؟

جواب: حضرت رضوان عَلَیْہِ السَّلَام۔

سوال: مچھلی، مچھر یا مکھی وغیرہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟

جواب: مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدھے کا

لُعب اور پسینہ پاک ہے۔

(۷) سفرِ ہجرت سے مگر اکیلے (نیم نئی)

سوال: ہاتھ وغیرہ سے خون نکلنے کے باوجود کب وضو نہیں ٹوٹتا؟

جواب: خون نکلا لیکن بہا نہیں تو یہ وضو کو نہیں توڑتا۔

نمازِ جنازہ فرض ہے یا واجب یا پھر سنت؟

جواب: نمازِ جنازہ فرضِ کفایہ ہے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے کتنے اونٹ

نخر فرمائے؟

جواب: اس موقع پر حضورِ نبیِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے مقدّس ہاتھ

سے 63 اونٹ نخر فرمائے۔

(۱۰) حوش کیساتھ مگر حوش سے (سوالات)

سوال: کس نبی عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی دعا سے ان کے بھائی کو نبوت ملی؟

جواب: حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے دعا کی کہ یارب میرے گھر والوں میں سے

میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ دعا قبول

فرمائی اور حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو آپ کی دعا سے نبی کیا۔

سوال: کن باتوں کو دنیا و آخرت کے بہتر اخلاق فرمایا گیا ہے؟

جواب: حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضورِ نبیِّ مکرّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد

فرمایا: ”کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے اچھے اخلاق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ

الرِّضْوَانُ نے عرض کی: ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا: ”جو تم سے تعلق توڑے اس

سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے

معاف کر دو۔“

سوال خوفِ خدا کا مطلب کیا ہے؟

جواب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبرا جائے تو اُسے خوفِ خدا کہتے ہیں۔

سوال قرآن کریم میں صلہٴ رحمی سے متعلق کیا ارشاد ہوا؟

جواب اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ط﴾ (پ ۴، النساء: ۱) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔

سوال صبر کسے کہتے ہیں؟

جواب نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رُکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رُکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو صبر کہلاتا ہے۔

(6) جوش کیساتھ مگر ہوش سے (اشعار)

چل پڑے ہیں قافلوں پر قافلے سُوئے حجاز

میں رہا جاتا ہوں ہائے! جانِ رَحْمَتِ یَا رَسول (وسائلِ بخشش، ص ۲۰۰)

شَرَفِ ہر برس حج کا پاؤں خدایا

چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی (وسائلِ بخشش، ص ۱۰۰)

مجھے اولیا کی محبت عطا کر
 تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی (وسائل بخشش، ص ۱۰۶)

فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردارِ دو جہاں
 اے مُرتضیٰ! عتیق و عمر کو خبر نہ ہو (حدائقِ بخشش، ص ۱۳۰)

جن کو سُوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیئے
 صدقہ اُن ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے (حدائقِ بخشش، ص ۱۷۶)

ناظرین کیلئے سوالات

سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟

جواب: پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔

وہ کون سا عمل ہے جس سے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے؟

جواب: وہ سلام ہے۔

چھینک آنے کے بعد حمد کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت ہے۔

سب سے پہلے زرہ کس نبی عَلَیْہِ الصَّلٰوٰۃُ وَاَلْسَلَام نے بنائی؟

جواب: حضرت داؤد عَلَیْہِ الصَّلٰوٰۃُ وَاَلْسَلَام نے۔

حضرت آدم عَلَیْہِ الصَّلٰوٰۃُ وَاَلْسَلَام کی عمر مبارک کتنی تھی؟

جواب: حضرت آدم عَلَیْہِ الصَّلٰوٰۃُ وَاَلْسَلَام کی عمر شریف ایک ہزار سال تھی۔

اسکورنگ شیٹ

سوال نمبر	تیسہمیں	سوال نمبر	پاس
		علم نور ہے	1
		عشق کے بول	2
		قرآنی معلومات	3
		سمجھائیے مگر اشاروں سے	4
		سفر ہے مگر اکیلے	5
		جوش کیساتھ مگر ہوش سے	6

سوال نمبر	تیسہمیں	سوال نمبر	پاس
		علم نور ہے	1
		عشق کے بول	2
		قرآنی معلومات	3
		سمجھائیے مگر اشاروں سے	4
		سفر ہے مگر اکیلے	5
		جوش کیساتھ مگر ہوش سے	6

ماخذ و مراجع

مؤلف	مؤلف	مؤلف	مؤلف
دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ	سنن ابن ماجہ	*****	قرآن پاک
دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۱ھ	سنن ابی داؤد	مکتبۃ المدینہ، کراچی ۱۴۳۲ھ	ترجمہ کنز الایمان
دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۶ھ	سنن النسائی	کتاب التفسیر و علوم القرآن	
دار المعرفہ، بیروت ۱۴۱۸ھ	المستدرک علی الصحیحین	دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۰ھ	تفسیر الطبری
دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۱ھ	مصنف عبد الرزاق	دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۴ھ	تفسیر البغوی
دار الفکر، بیروت ۱۴۱۳ھ	مصنف ابن ابی شیبہ	دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ھ	التفسیر الکبیر
دار الفکر، بیروت ۱۴۱۳ھ	السنن	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ	تفسیر القرطبی
دار الکتب العربی، ۱۴۰۷ھ	سنن الدارمی	دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۱ھ	تفسیر السداری
مرکز خدمت السنہ و السیرۃ النبویہ، ۱۴۱۴ھ	مسند الحارث	مطبع مبینہ، مصر ۱۳۱۷ھ	تفسیر الخازن
دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۸ھ	مسند ابی یعلیٰ	دار الفکر، بیروت ۱۴۰۳ھ	الدر المنثور
مؤسسۃ الرسالہ، ۱۴۰۵ھ	مسند الشہاب	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۳ھ	الاتقان
مؤسسۃ الرسالہ، ۱۴۰۹ھ	مسند الشامیین	دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ھ	روح البیان
دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۱ھ	شعب الایمان	مکتبۃ المدینہ، کراچی ۱۴۳۲ھ	خزائن العرفان
دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۴ھ	السنن الکبریٰ	مکتبۃ اسلامیہ، لاہور	تفسیر نعیمی
دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۰ھ	المعجم الاوسط	پیر بھائی بکین، لاہور	نور العرفان
دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۲ھ	المعجم الکبیر	مکتبۃ المدینہ، کراچی ۱۴۲۸ھ	علم القرآن
دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۵ھ	الجامع الصغیر	مکتبۃ المدینہ، کراچی ۱۴۳۳ھ	صراط الجنان
مؤسسۃ الرسالہ، ۱۴۰۳ھ	الاوائل للظہرانی	کتاب الحدیث	
دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۴ھ	مشکاۃ المصابیح	دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۹ھ	صحیح البخاری
دار الفکر، بیروت ۱۴۱۸ھ	فردوس الاخیار	دار ابن حزم، بیروت ۱۴۱۹ھ	صحیح مسلم
دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۸ھ	التقریب والتہبیب	دار الفکر، بیروت ۱۴۱۴ھ	سنن الترمذی

مجمع الزوائد	دار الفکر، بیروت، ۱۳۲۰ھ	مرآة المناجیح	ضیاء القرآن پبلیکیشنز، لاہور
الاحسان بتتیب صحیح ابن حبان	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۷ھ	بشیر القاری	باب المدینہ کراچی
کنز العمال	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۹ھ	نزہۃ القاری	فرید بک سٹال، لاہور ۱۳۲۱ھ
جمع الجوامع	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۲۱ھ	کتاب العقائد	
معرفة السنن والآثار	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۲۲ھ	الفقہ الاکبر	باب المدینہ کراچی
المجانسة وجواهر العلم	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۲۱ھ	شرح اصل اعتقاد اهل السنة والجماعة	دار البصیرة، مصر
نوادیر الاصول	مکتبۃ الامام بخاری، قاہرہ	شرح العقائد النسفیة	مکتبۃ المدینہ، کراچی، ۱۳۳۰ھ
الادب المفرد	مدینۃ الاولیاء، ملتان	السامرة	مطبعة السعادة، مصر
تاریخ دمشق لابن عساکر	دار الفکر، بیروت، ۱۳۱۵ھ	اليواقیت والجواهر	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۹ھ
حلیۃ الاولیاء	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۹ھ	منح الروض الازھر	باب المدینہ، کراچی
المقاصد الحسنۃ	دار الکتب العربی، ۱۳۲۵ھ	التبراس	مدینۃ الاولیاء، ملتان
کشف الخفاء	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۲۲ھ	المعتقد المنتقد	برکاتی پبلشرز، کراچی، ۱۳۲۰ھ
کتاب العظۃ	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۳ھ	دس عقیدے	مکتبۃ المدینہ، کراچی، ۱۳۳۷ھ
مکارم الاخلاق لابن ابی الدنیا	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۲۱ھ	الدولة الحکیة	مؤسسہ رضاء، لاہور، ۱۳۲۲ھ
الکامل فی ضعف الرجال	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۸ھ	عقیدہ ختم نبوت	الادارۃ تنظیم العقائد الاسلامیہ، ۱۳۲۶ھ
کتاب شروح الحدیث		کتاب الرجال والطبقات	
شرح النووی علی المسلم	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۰۱ھ	الطبقات الکبری لابن سعد	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۸ھ
فتح الباری	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۲۵ھ	الاستیعاب فی معرفة الاصحاب	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۲۴ھ
عدة القاری	دار الفکر، بیروت، ۱۳۱۸ھ	صفة الصفوة	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۲۳ھ
ارشاد الساری	دار الفکر، بیروت، ۱۳۲۱ھ	الاکمال فی اسماء الرجال	باب المدینہ، کراچی
مرقاة المفاتیح	دار الفکر، بیروت، ۱۳۱۸ھ	سیر اعلام النبلاء	دار الفکر، بیروت، ۱۳۱۷ھ
فیض التقدير	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۲۲ھ	الاصابة فی تمییز الصحابة	دار الکتب العلمیہ، ۱۳۱۵ھ
اشعة المعات	کونڈ	اسد الغایة	دار احیاء التراث العربی، ۱۳۱۷ھ

تدريب الراوى	دار الفكر، بيروت ۱۴۲۰ھ	الفتاوى الحديثية	دار احياء التراث العربى، ۱۴۱۹ھ
الطبقات الكبرى	دار الفكر، بيروت ۱۴۱۵ھ	تنوير الابصار	دار المعرفه، بيروت ۱۴۲۰ھ
كتب التاريخ			
تاريخ بغداد	دار الكتب العلمية، ۱۴۱۷ھ	مواقى الفلاح	باب المدينة كراچى
تاريخ الخلفاء	باب المدينة، كراچى	الدر المختار	دار المعرفه، بيروت ۱۴۲۰ھ
سوانح كراچا	مكتبة المدينة، كراچى ۱۴۲۹ھ	الفتاوى الهندية	دار الفكر، بيروت ۱۴۰۳ھ
سوانح امام احمد رضا	مكتبة نوريه رضويه، ۱۴۰۷ھ	حاشية الطحطاوى على مواقى الفلاح	باب المدينة كراچى
تاريخ مشائخ تشبنديه	موتال پبليڪيشنز، راولپنڈى	زد المحتار	دار المعرفه، بيروت ۱۴۲۰ھ
كتب الفقه والفتاوى			
الفيقيه والمستفقه	دار ابن جوزى، دامام ۱۴۲۸ھ	مجموعه رسائل الذكنوى	انتشارات فتح الاسلام احمد جام، ۱۳۸۰ھ
الميسوط	دار الكتب العلمية، ۱۴۲۱ھ	عمدة العوايه	باب المدينة، كراچى
بدايع الصنائع	دار احياء التراث العربى، ۱۴۲۱ھ	الفتاوى الرضويه	رضا فاؤنڈيشن، لاہور
الفتاوى الخائيه	پشاور	جد البستار	مكتبة المدينة، كراچى ۱۴۳۵ھ
الهداية	دار احياء التراث العربى، بيروت	فتاوى افريقيه	نورى كتب خانہ، ۲۰۰۳ء
المدخل	دار الكتب العلمية، ۱۴۱۵ھ	بہار شريعت	مكتبة المدينة، كراچى ۱۴۳۵ھ
تبيين الحقائق	دار الكتب العلمية، ۱۴۲۰ھ	فتاوى امجديه	مكتبة رضويه، كراچى ۱۴۱۹ھ
شرح الوقايع	باب المدينة، كراچى	نماز كے احكام	مكتبة المدينة، كراچى ۲۰۰۲ء
الفتاوى التاتارخانيه	باب المدينة كراچى	رفيق المعترين	مكتبة المدينة، كراچى ۱۴۳۳ھ
الجوهرة النيرة	باب المدينة كراچى	رفيق الحرمين	مكتبة المدينة، كراچى ۱۴۳۳ھ
الفتاوى الميزانية	دار الفكر، بيروت ۱۴۰۳ھ	اسلامى بہنوں كى نماز	مكتبة المدينة، كراچى ۲۰۰۸ء
غنية التمسى	سہيل اكيڈمى، لاہور	فيضان اذان	مكتبة المدينة، كراچى ۱۴۳۵ھ
الاشباہ والنظائر	دار الكتب العلمية، ۱۴۱۹ھ	فتاوى البسنت	مكتبة المدينة، كراچى ۱۴۳۳ھ
البحر الرائق	كوتہ	فيضان زكوة	مكتبة المدينة، كراچى ۱۴۲۹ھ
		فيضان رمضان	مكتبة المدينة، كراچى ۱۴۲۷ھ

چندے کے بڈے میں سوال جواب	مکتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۹ھ	تذکرہ مجدد الف ثانی	مکتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۸ھ
وقف کے شرعی مسائل	مکتبہ اہلسنت، فیصل آباد ۲۰۰۹ء	امام احمد رضا اور ودیعات و منکرات	فرید بک سنال، لاہور ۲۰۰۰ء
کتاب السیرة			
دلائل النبوة	دار اکتب العلمیہ، ۱۴۲۳ھ	فیضان اعلیٰ حضرت	شعبان برادرز، لاہور ۱۴۳۴ھ
الشفاعہ بتعریف حقوق المصطفیٰ	مرکز اہلسنت برکات رضا، ہند	فیضان صدیق اکبر	مکتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۳ھ
تذکرۃ الاولیاء (فارسی)	انتشارات گنجینہ، ۱۳۷۹ھ	فیضان فاروق اعظم	مکتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۶ھ
تنزکۃ الاولیاء	دار اکتب العلمیہ، ۲۰۱۰ء	فیضان پیر میر علی شاہ	مکتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۵ھ
الیاض النضرۃ فی مناقب العشرۃ	دار اکتب العلمیہ، ۱۴۲۳ھ	سیدی قطب مدینہ	مکتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۱ھ
بہجۃ الاسرار	دار اکتب العلمیہ، ۱۴۲۳ھ	تعارف امیر اہلسنت	مکتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۸ھ
شواہد النبوت	مکتبہ حقیقیہ، استنبول ۱۴۱۵ھ	تذکرہ امیر اہلسنت	مکتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۹ھ
الخصائص الکبریٰ	دار اکتب العلمیہ، بیروت	قوم جنات اور امیر اہلسنت	مکتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۸ھ
وفاء الوفاء	دار احیاء التراث العربی، بیروت	کتاب التصوف	
المواہب اللدنیۃ	دار اکتب العلمیہ، ۱۴۱۷ھ	کتاب الزهد لابن مبارک	دار اکتب العلمیہ، بیروت
شرح الشفا	دار اکتب العلمیہ، ۱۴۲۱ھ	قوت القلوب	دار اکتب العلمیہ، ۱۴۲۶ھ
السیرۃ الحلیبۃ	دار اکتب العلمیہ، ۱۴۲۲ھ	التویبۃ والتنبیہ	مکتبہ التوعیۃ الاسلامیہ، ۱۴۰۸ھ
جذب القلوب	نوریہ رضویہ پبلیشنگ کمپنی، ۱۴۳۱ھ	تنبیہ الغافلین	دار الکتاب العربی، ۱۴۲۰ھ
شرح المواہب	دار اکتب العلمیہ، ۱۴۱۷ھ	الرسالۃ التفسیریۃ	دار اکتب العلمیہ، ۱۴۱۸ھ
جامع کرامات الاولیاء	مرکز اہلسنت برکات رضا، ۱۴۲۲ھ	کشف المحجوب	نوائے وقت پرنٹر، لاہور
سیرت مصطفیٰ	مکتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۹ھ	احیاء علوم الدین	دار صادر، بیروت ۲۰۰۰ء
سیرت سید الانبیاء (مترجم)	مظہر علم، لاہور ۱۴۲۴ھ	کیسے سعادت	انتشارات گنجینہ، تہران
سیر اولیاء (مترجم)	مشفق بک کارنر، لاہور	عوارف المعارف	دار اکتب العلمیہ، ۱۴۲۶ھ
مرآة الاسرار (مترجم)	الفیصل ناشران و تاجران کتب، ۲۰۰۰ء	عوارف المعارف (مترجم)	پروگریسو بکس، لاہور ۱۹۹۸ء
اقتباس الانوار (مترجم)	الفیصل ناشران و تاجران کتب، ۲۰۰۰ء	شرح الصدور	مرکز اہلسنت برکات رضا، ہند

کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۹ھ	اولاد کے حقوق	دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۵ھ	تنبیہ المغتربین
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۹ھ	بہشت کی کنجیاں	دار المعرفہ، بیروت ۱۴۱۹ھ	الزواج
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۷ھ	جنی زیور	دار الطباعة العامه، مصر	الطريقة الصحنية
کتب خانہ درگاہ فوجیہ مہریہ، ۱۴۲۳ھ	مہر منیر	دار الطباعة العامه، مصر	الحديقة النديية
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۲ھ	بیک کی دعوت	مطبعة شرکت صحافیہ کٹنہ، ۱۳۱۸ھ	البريقة الصمودية
الکتب المستفرقة			
کتبہ المدینہ، کراچی ۲۰۰۶ء	فیضان سنت	دار ابن کثیر، بیروت ۱۴۳۳ھ	ادب الدنيا والدين
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۰ھ	غیبت کی تباہ کاریاں	دار الکتب العلمیہ، ۲۰۱۱ء	النهاية في غريب الحديث والاثر
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۵ھ	باطنی بیماریوں کی معلومات	دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۰ھ	الاذکار للنووی
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۶ھ	خوف خدا	دار الفکر، بیروت ۱۴۱۶ھ	تهذيب الاسماء واللغات
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۳ھ	بغض وکینہ	دار الکتب العلمیہ، ۱۴۲۱ھ	روض الدياحین
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۵ھ	غمے کا علاج	دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۶ھ	الروض الفائق
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۲ھ	اہل حق گھوڑے سوار	دار المنار	التعريفات للمجرجانی
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۶ھ	آداب مرشد کامل	دار الفکر، بیروت ۱۴۱۹ھ	المستطرف في كل فن مستظرف
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۳ھ	عاشقان رسول کی 130 حکایات	دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۶ھ	لسان المیزان
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۹ھ	فیائے صدقات	مؤسسۃ الریان، ۱۴۲۲ھ	القول البديع
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۳ھ	حرص	مؤسسۃ الکتب الثقافیہ، ۱۴۲۵ھ	الهدو والسافرة في امور الآخرة
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۳ھ	163 مدنی پھول	دار الکتب العلمیہ، ۱۴۰۸ھ	الحيائک في اخبار السلاک
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۶ھ	پھولوں سے ہاتھوں ہاتھ صلح کر لی	دار الکتب العلمیہ، ۱۴۰۶ھ	لقط المبرجانی في احکام العجان
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۹ھ	دعوت اسلامی کا تعارف	دار الشمر، ۲۰۰۰ء	افضل الصلوات على سيد السادات
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۳ھ	مزارات اولیاء کی حکایات	کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۲۵ھ	اعلیٰ حضرت سے سوال جواب
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۳ھ	مدنی وصیت نامہ	کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۰ھ	ملفوظات اعلیٰ حضرت
کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۵ھ	بد شگون	کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۰ھ	فضائل دعا
*****	*****	کتبہ المدینہ، کراچی ۱۴۳۰ھ	

نیک نمازی بننے کیلئے

ہر جمعرات بعد نمازِ مغرب آپ کے یہاں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رضائے الہی کیلئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات شرکت فرمائیے ❁ سنتوں کی تربیت کے لئے مَدَنی قافلے میں عاشقانِ رسول کے ساتھ ہر ماہ تین دن سفر اور ❁ روزانہ ”دُکھِ مدینہ“ کے ذریعے مَدَنی اِثاعات کا رسالہ پُر کر کے ہر مَدَنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمے دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔

میرا مَدَنی مقصد: ”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ۔ اپنی اصلاح کے لیے ”مَدَنی اِثاعات“ پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مَدَنی قافلوں“ میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ



ISBN 978-969-631-753-1



0126216



فیضانِ مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 2650

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net